Historia priorum regum Persarum post firmatum in regno Islamismum. Ex Mohammede Mirchond Persice et Latine cum notis geographico literariis / [by B. von Jenisch].

#### **Contributors**

Mīr Khvānd, Muḥammad ibn Khāvandshāh, 1433-1498. Jenisch, Bernhard, Freiherr von, 1734-1807.

### **Publication/Creation**

Viennae: Typis J.N. de Kurzbeck, 1782.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/afjhvdks

### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



36875/C

MIRKHOND

P.C. 37 18145 Hara Stool

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library

https://archive.org/details/b28769168

# HISTORIA

PRIORUM

# REGUM PERSARUM

POST FIRMATUM IN REGNO ISLAMISMUM.

EX

# MOHAMMEDE MIRCHOND

PERSICE ET LATINE

CUM NOTIS

# GEOGRAPHICO LITERARIIS.



### VIENNÆ,

TYPIS JOSEPHI NOBILIS DE KURZBECK, SACR. CAS. REG. AULA ILLYRICO - ORIENTALIS, NEC NON INCL. INF.
AUSTRIA ORD. TYP., ET BIBLIOP.

MDCCLXXXII.

RISTORICAL MEDICAL MEDICAL

# WENCESLAO

A

# KAUNITZ RIETBERG

ROM. IMP. PRINCIPI

ORIENTALES UT LITERÆ

AUSTRIACIS IN TERRIS

VIGERENT,

OLIM

# AUSPICI ET PRAESTITI.


NVNC

ENATI UT INDE FRUCTUS
COMMUNEM IN USUM

CEDANT,

# FAUTORIET PROTECTORI.

BERNARDUS DE IENISCH D. D.





### L. S.

SUNT, si quæ alia in rebus literariis usque adhuc minus elaborata dici queunt, in historicis certe plurima, eaque imprimis quæ ad Asiaticarum, & exterarum gentium gesta pertinent. Cujus haud quemquam ratio sugerit, ubi sontes, ex quibus haurire nostratibus adhucdum licuit, diligentius apud animum suum reputarit.

Et sane rara admodum illa sunt historiæ adminicula, ex Turcarum, Arabumque monumentis petita; novem licet, & quod excedit seculis,
perpetua sere Europæis nunc pace, nunc bello cum barbaris hisce nationibus
negotia tractanda occurrerint.

Rariora, quin rarissima ea sunt, quæ ad res Persarum eruendas adjumento esse possent (premo silentio Indos, Tataros, & gentes reliquas) quamquam Persis & cum Græcis olim, Scythisque, & posterioribus temporibus cum Russis frequens intercesserit commercium, variis nempe jam bellorum, jam legationum caussis oblatis. Neque est, qui ad hanc historiæ partem (ut quid in iis fuisse præstitum dici queat) illa accenseat, quæ clarissimi viri la Croix, pater, filiusque una cum Jonesio, de Dschengizchano, Timurbeghio, & Schah Nadirio juris publici secere; præterea enim, quod hæ haud connexæ singularium tantum epocharum particulæ sint, in omnibus insuper auctoris Asiatici verba, ad rem illustrandam apprime necessaria, desunt, atque in binis quidem prioribus ipsa etiam in translatione adcuratio desideratur; ut id ipsum in Commentatione de fatis LL. OO. innui.

Neque omni auctoritate destituitur hic in medium prolata de rarissimis Persicæ inprimis historiæ sontibus sententia, publico utpote, dum hujus mentio haud ita pridem in Anthologiæ Persicæ præfatione incideret, judicio corroborata.

Pretium

Pretium igitur operæ futurum, haud vane mihi pollicebar, fiquidem eam historiæ partem, e Mirchondii opere depromtam, quæ primorum regum post stabilitum in Perside Islamismum res gestas complectitur, una cum translatione latina typis subjicerem.

Coeptum cum novitate quidem, sed non minus cum publica etiam utilitate, nisi plane me spes fallat, conjunctum.

Mirchondius enim vero, vel, ut cum Persis loquar, Mohammedes, filius Chamend Schah, filii Mahmudi, tum ob universam, quam opere suo complexus est, regni historiam, tum ob simplicem rerum in ea occurrentium veritatem (illa enim cumprimis, quæ post sirmatum Islamismum gesta sunt, optimorum codicum auctoritate nituntur) tum ob stili denique puritatem, & nitorem id consecutus est, ut suos inter omnium facile historicorum princeps, neque nostratibus ob nominis celebritatem ignotus, quin a multo jam tempore esset etiam expetitus.

Nam quæ Lusitanus ille peregrinator Petrus Texeira, & orientalis polyhistor Herbelotius, ex hoc historiographo excerpta olim edidere, accendunt potius, quam explent literatorum desideria.

Superiori equidem seculo novam meliorum artium studiis orituram lucem Schikardius prænuntiabat, ubi alterius illius Plutarchi (ita enim Persam hunc nominat) scripta doctis Europæ viris palam innotuerint; sore enim vir bonus sibi pollicebatur, ut doctissimus bibliothecæ Cæsareæ custos, Sehastianus Tenaglius, itemque operis Mirchondiani, nunc temporis codices inter manuscriptos bibliothecæ Cæsareæ asservati, possessor, hujus edendi in se curam susciperet; verum inania hæc suisse vota, eventus docuit.

Felicius certe istud Meninskium præstiturum suisse, mihi persuasum habeo, si vita ipsi longior suppetiisset; & ipse enim Mirchondianum opus cum translatione latina in lucem emittere moliebatur.

Quod itaque variis præpeditum fatis intentatum in hodiernam diem relictum est, id, eruditissimi viri, Henrici Schultensii, qua de propagandis sinibus linguarum orientalium usus est, admonitione incitatus, novis sane ausibus præstare aggressus sum, Mirchondium nempe ab oblivione vindicare.

Ast haud integrum opus edere, est animus, id enim consilii & conatu operosum, & ob scriptionis multitudinem difficile, & sumtuosum, nec omni denique ex parte communi usui esset opportunum.

Quare inde ab eo tempore ordiri placuit, quo confirmata jam Islamitica religione, proprios denuo principes Persia nacta est; quæ epocha eo profecto clariori luce digna videtur, quo magis incerta usque adhuc rerum, illic gestarum, series permansit.

Arabes enim, ne, profanam quoque suorum principum, quos Chalifas dixere, potestatem ex primis Persidis dynastiis detrimenti quidpiam accepisse, palam sieret, easdem cum inopi hominum multitudine, cujus principibus siduciario duntaxat jure provincias regere licuerit, in annalibus suis exæquabant.

Contra ipsos rerum Persicarum scriptores si consulimus, manifestum sit, vastum illud Persiæ imperium, quod post eversum Jezdedschirdi solium in tertium usque seculum Chalisis erat obnoxium, excusso pedetentim horum imperio, in minores primum distractum principatus, mox, propria inducta regni forma, propriis etiam monarchis paruisse, quorum auctoritas, viresque ea brevi tempore incrementa ceperant, ut ipsis adeo Chalisis usque eo jura darent, dum essusia in Persiam, & omnem Asiam citeriorem Mogulensium exercitus sub Dsebengizchano, proximisque hujus successoribus parem Persis æque, ac Arabibus calamitatem inferret.

Sed jam, ne præfixos excedam limites, de ipfa, quam in hac editione collocare necessum videbatur, cura, pauca præfari lubet.

Auctoris Perfici ut sensa, & animum, quantum licuit, exprimerem, duos, quos ipse possideo, manuscriptos codices omni solicitudine contuli, binos quoque illos in bibliotheca Palatina hie repositos collaturus, idque eo lubentius, quod ob scripturarum nitorem præ aliis commendari mereantur. Sed enim horum unus, isque olim Tenaglianus, ab eo jam tempore, quo Neselius catalogum vulgaverat, posteriori volumine caret, etsi quondam integrum hie loci extitisse, ex iis suspicari liceat, quæ de ipso hoc Tenagliani codicis exemplo in proemio ad Tarich suum Schikardius retulit; alter demum, ex Schwach-heimiana librorum collectione assertus, integram quidem duobus voluminibus


historiam complectitur, verum, nescio, quo invido fato accidit, ut ipsa illa folia, queis præsens historiæ particula continetur, plane desiderentur.

Versionem, quoad sieri poterat, sidelem quidem, ast ponderatis potius, quam numeratis juxta Tullii mentem verbis, latinæ simul linguæ genio accomodatam in lucem dare constitui.

Annotationum eum delectum institui, non ut opus mole vastum redderem, sed commentatione illustrarem. Plurima itaque, quæ huc facerent, vel ex manuscriptis codicibus aliis, vel libris certe, inventu rarioribus, depromere visum est.

In præsens denique binæ duntaxat Persidis dynastiæ, eæque ordine primæ, Taheridarum videlicet, & Sosfaridarum in lucem prodeunt, quas sacile, si reipublicæ literariæ hujus editionis ratio probabitur, & reliquæ subsecuturæ sunt, suam in iis elaborandis operam locante Plur. Rev. D. Francisco Höck, cujus, quoniam mihi, gravioribus curis distento, quin morbo etiam per hoc tempus impedito, subsecivis duntaxat horis vacare his laboribus licuit, sida promtissimaque opera usus sum. Quod si minus hæc coepta eruditorum votis respondeant, id summo, & importuno fortassis, orientalem literaturam promovendi studio, quo plurimis jam retro annis in eandem feror, concedendum. Dabam Idibus Decembris A. C. cidiocexixe.





1

1

. . .

1 1

. 156

-



# DYNASTIA TAHERIDARUM.

Taherus Zuiil-jeminein sibi, successoribusque suis supremum imperium vendicat, qui reges Tahiridæ compellantur.

Laberus, filius Husein, filii Moasab Hozai, intersecto Mohammed Emino, sexto Abassidarum Chalifa, successorem, fratremque ejus Mamunum, ex Chorosanæ provincia Bagdadum concedentem secutus, eos inter, qui individui comites principi adhærebant, usque eo samiliaritate illius utebatur, dum die quadam Mamunum adiens, compotationibus
indulgentem conspexisset; cui princeps mox vini pocula quæpiam ab Huseino eunucho præberi justit; post quæ tamen
lacrimæ ipsi oboriebantur.

Quare Taherus principem allocutus, o princeps credentium! inquit, ab ortu ad occasum usque omnis orbis tuo paret imperio, haud igitur tui mente assequor mœroris caussam; cui princeps, sletus mei ea est ratio, ut, si originem, caussamve pandam, contemtu, & ignominia assiciar, si celem,

2 fummo

summo mœrore mens mea angatur; & vix quispiam curis vacat; his dictis in amarum adeo erupit fletum, ut Tahero nullus porro superesset sciscitandi locus.

Subducens itaque se se a conspectu principis, neque boni quid ominans, samiliarium quemdam *Huseini* eunuchi illico quæsierat, cui magnam pecuniam tradidit, quam ad manus *Huseini* consignaret, illudque efficeret, caussam hic ut sletus a principe expiscaretur.

Familiaris hic, traditis Huseino duobus supra viginti

aureorum millibus, Taheri vota eidem exposuit.

Qui altera mox die, simul ac pedis honoraretur osculo, vinum Chalifæ petenti negans, per Deum! inquit, vinum sidelium principi non ministrabo, dum is, hesterni sletus, quæ caussa sit, servo huic suo aperiat; quærenti Mamuno, quid ipsius hæc scire intersit? reponebat, se ad hanc temeritatem eo industum esse, quod mæstitia principis ingenuum animum suum oppido excruciet.

Tum Mamunus: si arcanum hoc revelaveris cuipiam, morte te multabo; nunquam reposuit Huseinus vitio meo arcanum ullum in publicum prodiit. Igitur princeps: ut primum Taherum conspicio, simul e vestigio memoria fratris mei Mohammed Emini, hujusque violenta mors tanto cum pudore, eaque mentis consusione mihi se oggerit, ut lacri-

mas cohibere nequeam.

Huseinus mox ista ad Taherum referri curat; qui rebus suis consulturus, ad Vezirium Ahmed, Ahu Chalid adibat, talibus eum verbis compellans: qui mihi, rebusque meis commodat, non ingrato beneficium locat. Queis dictis animi sui sensa exponens, multis precibus instabat, rem eo ve-

lit perducere, in quæpiam ut confiniorum loca sibi secedere liceret; hac demum ratione a *Mamuni* indignatione, & concitatiore fortassis animi commotione tutum se, liberumque suturum.

Name of Party and

Taberi precibus annuens Vezirius, cum forte pro muneris sui ratione ad principem properaret, mox de regnistatu a Chalifa interrogatus, jam plures se, & insomnes, & curarum plenas, egisse noctes affirmabat; reique caussam sciscitanti Mamuno referebat, Chorosanæ regnum male profecto custoditum esse, eique Tatarorum imminere exercitum; Ghafanum, huic provinciæ præfectum, nequaquam eidem strenue defendendæ sufficere. Rogitanti rursus Mamuno, quid faciendum esset? suggerit Ahmed Chaledus, ad tuenda regni hujus confinia mittendum esse Taberum; haud ipsi ista concredo, reddit Chalifa, quin metuo, ne ipse subin mihi molestus accidat. Sed enim Vezirius, se vadem fore omnium profitebatur, quæ per Taberum minus recte agerentur; quo dicto, princeps denique consensit. Taherus igitur in Chorofanam iter agressus, nonmulto post tempore summa potestate, quam fibi arrogaverat, huic regno præesse cæpit.

Rei gestæ seriem Kelsum, silius Sabit, his verbis exponit: Quo tempore sub Chalifatu Mamuni tabellariis regiis præsectus in Chorosana eram, quadam die veneris Taberus, suggestum in sano conscendens, publicas preces recitare cæperat, atque, ubi mentio Chalisæ nominis sacienda erat, verba isthæc sussiciebat: O Deus! conserva probum populum tuum Moslemicum, uti probus a sanctis tuis essectus est. Retribue malum viro, qui adversus bunc rebellis, turbas excitat, ejusque sanguini inbiat. Fiat expiatio interutrumque.

a 3 His

His auditis, illud mente volutabam, qui in hoc dubio rerum statu cadet victima, ego primus ero; hoc utique principem meum celare nequeo. Domum itaque repetii, atque peracta, mortuis sieri solita, lotione, paratoque serali amiculo, quæ evenere, literis consignavi, neque addens, neque imminuens quidquam, easque Bagdadum illico transmis. Altera die quidam ante solis ortum ex gubernatoris palatio me quæsitum advenerat; sidei igitur consessionis dicta sormula eo processi, tum ecce Taleha silius Taheri, e cubiculo procedens, ex me quæsivit, num, quæ heri evenissent, Bagdadum scripserim? me id assirmante, subjecit, mortem quoque Taheri hodie adderem; quam, domum regressus, Chalisæ pariter significavi.

Fertur Mamunus, primo nuntio accepto, in mandatis dedisse Vezirio, ut quam celerrime iter in Chorosanam institueret ob interpositam suam pro Tahero sidem. Verum vix jussa principis in exercitu adornando exequi parantem, subitus, sequenti die de Taheri morte allatus alter nuntius, a ma-

ximo capitis discrimine liberavit.

Fama est, Taherum, qui & ambidexter audit, postquam Mamuni nomen a publica oratione exclussisset, finita consueta die veneris oratione, hac eadem nocte sebri correptum, altera mox die mortuum in lecto repertum esse.

Chorosanam is anno uno cum dimidio rexerat, agnomen Abuet Tybii præseserens, unoque privatus oculo; un-

de non inlepide poeta quispiam cecinit:

O! qui possides binas dexteras, & unum tantummodo oculum,

Privaris uno oculo, & altera tibi dextera superest.

Tale-

Taleha, filius Taheri, Chorosanæ provinciæ præficitur.

Anno ducentesimo nono, relatis ad Mamunum de Taheri H. 209. morte nuntiis, literas regias is ad Taleham miserat, queis incep. 3. Maji An. Chorosanæ regimen curæ ipsius concredidit.

Chorosanæ regimen curæ ipsius concredidit.

Refertur Abdullahius eo tempore, quo pater mortem oppetiit, Raccæ debellando Nasro filio Schebibi, infensifimo Chalifæ hæretico, occupatus fuisse; a Mamuno igitur omnibus itidem provinciis, & regnis, quibus pater præerat, præfectus, Chorosanam fratri suo Talehæ vicario nomine gubernandam concredidit, quin ulla animi inquietudine Chalifa commoveretur.

Eodem, quo Taleha Chorosanæ præerat, tempore Hameza motus in provincia Sistan excitaverat; quem cum, deducto illuc exercitu, post acrem pugnam devicisset, redacta in obsequium provincia, Chorosanam reversus est.

Anno ducentesimo decimo tertio Taleha, morbo cor- H. 213. reptus, ad æternitatem transiit. Ali, filius ejus, qui substi- incep.21. tutionis jure patri succedebat, a tumultuario seditiosorum ma- C. 828. nipulo bello petitus, commisso in terris Nischaburi prælio, haud paulo post vita exutus est.

Abdullahius, filius Taheri, Mamuni justu ad reprimendos temerarios Babeki Huremdini ausus exercitui conscribendo in urbe Dinavar operam dabat, cum Bagdadi de novis hæreticorum motibus, & de cæde Talehæ renunciaretur; Mamunus itaque Abdullahio nuntiari curat, ut Chorosanam ocius adiret, atque seditiosa earum partium consilia infringere niteretur. Abdullahius Chalisæ morem gerens, in Chorosanam iter ingressus est. Maxima tum rerum penuria ea provincia laborabat, cælum item salutarem negabat pluviam, ita, ut colonus omnem jam suturæ messis spem abjiceret. Sed ecce! adveniente in urbem Nischabur Abdullahio, portæ misericordiæ disruptæ, largum imbrem impertiebantur.

Sub felici deinceps Abdullahii gubernio Chorofana mi-

re excolebatur.

Anno ducentesimo, & decimoquinto Azizius quidam, incep. 27. Abdullahii olim mancipium, ad priora principis hujus servitia Febr. A. ex Aegypto rediens, ubi ad urbem Kum venisset, cum exercitu sibi obviam habuit Giafarum, filium Davidis, Chalifæ imperium ea tempestate detrectantem, quem acie sudit, fugavitque.

H. 216. Anno ducentesimo decimo sexto Abdullabius ipse reincep. 17. fractarios illos Chorosanæ hæreticos funditus delevit, & exFeb. A.C.

Feb. A.C. tirpavit.

Mamuni, e vivis sub hæc tempora sublati, successor Moatesimus, suæ in Chorosanæ principatu confirmationis testes literas cum vexillo Abdullaho misit, filiumque ipsius Mohammedem, Bagdadi instituendum, suscepit, eo in loco semper habitum, ut illum ceteris nobilibus anteserret omnibus, vita autem suncto, justa ipse persolveret.

Anno ducentesimo vigesimo septimo supremum diem H. 227.

Moatesimus obiit, filio Wasekio in parentis locum Chali
incep.

20. Oct.


fa salutato, qui in eodem impendendo, quin amplificando A.C.841.

etiam Abdullabo honore nihil omnino prætermittebat.

Anno ducentesimo trigesimo Abdullahus fatis concessit, H. 2302 postquam annis osto Chorosanæ imperans, quinque supra incep. quadraginta, ut nonnulli volunt, vitæ annos exegisset. Vir A.C. 844. justitiæ, & liberalitati majorem in modum deditus, literisque excultus adeo, ut arabica quoque conderet poemata. Quare poetæ illius temporis mortem ejus variis næniis, & epicidiis concelebrabant.

Historia nostra ad hunc locum deducta, non alienum erit, eventum, qui modo admodum nobis in mentem venit, hic enarrare. Chorosanam obtinente summo cum imperio Abdullaho, filio Taheri, fertur, cœtus magorum quidam pyreum in urbe Herat sano Moslemico vicinum habuisse, cui, peracto singulis annis censu, uti sacra Mohammedis lege cautum, ab omnibus molestiis, ac oneribus libero esse licuit. Accidit autem, ut die quadam Moslemicus præco, in vico Malan ad populum verba faciens, resrigescere Moslemismi ardorem adsereret, id eo comprobari dictitans, quod pyreum in urbe Herat proxime sano Moslemico adjacere impune serrent. Moslemorum servore mirum quantum his verbis

verbis excitato, maxima hominum turba confluens, ingruentibus tenebris, una cum fano suo pyreum quoque solo æquavit, nullo omnino ædificii utriusque vestigio relicto, atque eadem nocte fanum sibi aliud eo prorsus in loco, quem pyreum prius cum fano fimul occuparat, extruxit. Magi incuriæ somno excusso, ubi ne ullum quidem vel fani, vel proprii etiam pyrei vestigium deprehenderent, vehementer attoniti, investigata, & comperta denique certa caussa ex urbe Herat celeres contendunt Nischaburum, ubi ea, quæ accidissent, his Abdullaho verbis conquerentes exponebant: Te principe hujusmodi petimur injuriis; his itaque ad tuam notitiam perlatis, spe alimur, fore, ut justitiam tuam experiamur. Abdullaho de re tota uberius edoceri cupiente, cum vectigalibus præfecti, quibus id commissum erat, ad locum, ubi folicita quæstio habenda erat, pervenissent, quatuor millibus plures viri, confectæ plane ætatis, tum ex urbe Herat, tum vicis, urbi adjacentibus, in unum coacti, uno ore testabantur, se, dum viverent, fanum isthoc nunquam in alio, atque modo sit, vidisse statu, neque in isto loco fanum, aut pyreum stetisse antehac. Quo testimonio, boni se quidpiam præstisse, opinabantur.



# Succedit Taherus filius Abdullahi.

Nuntiata mox Abdullahi morte, Wasekius Chalisa silium ejus Taherum omnes provincias, queis parens præerat, regere,

gere, ac gubernare voluit, fratrumque singulos, amplissimis muneribus præfectos, fingulari etiam benevolentia profecutus est. Ita bini post captum a Tabero gubernium elapsi anni, cum & ipse Wasekius naturæ debitum penderet.

Mutemekilius, ubi primum Chalifatus infignia confecutus est, fine mora Tabero, literis confignatam, pariter

inaugurationem cum vexillo submisit.

Anno ducentesimo trigesimo septimo Taberus fratrem H. 237. Mohammedem, filium Abdullahi Bıgdadum concedere justit, jul. A. C. quem Mutewekilius exercitui præfectum, in omnibus simul 851. terris Moslemicis Vicarium fibi fubstituit.

Eodem tempore Mutemekilio nuntiabatur, ab Ayfa, filio Mohammedis, filii Giafar, filii Mohammed, filii Asem, (qui ex Babyloniæ principibus) Abu Bekrum, Amrum, Aischam convitiis lacessitum esse. Hinc Chalifa Samirra, ubi degebat, in mandatis dederat Mohammedi, Ayfam ut catenis vinciret, quin, dum animam efflaret, verberibus castigaret, corpusque exanime in Tigrim fluvium projiceret. Queis mandatis Mohammedes sedulo obtemperabat.

Taberus quoque, filius Abdullabi reliquum vitæ tenipus in regenda Chorosanæ provincia traduxit, dum sub Mu-

stæini Chalifæ imperio mortem denique oppeteret.

=====

Mohammedes, filius Taberi, ultimus de Taberiorum famlia, Chorosanæ imperium adit.

De morte Taberi certior redditus Chalifa Mostæinus, Mohammedi, filio Taheri, Chorofanæ gubetnationem demanb 2 dat,

dat, patruo illius Mohammede, filio Abdullahi, Iraca, duarumque sacrarum Arabia civitatum, principe renuntiato.

Mohammedes gubernator Chorosanæ vir erat, & studio humanitatis, & reliquis dotibus, principe dignis, præcellens; ast simul vino, musicæque plus, quam deceret, deditus; præsecit regni sui tempore Tabaristanæ Suleima-

num, filium Abdullahi, patruum alterum.

H. 251. Anno ducentesimo quinquagesimo primo Hasanus, incep. 1. filius Zeidi, Alida, vir inter suos in Tabaristana præciFebr. A.
C. 865. puus, captis armis, plurimas Ghilani, & Deilemi urbes in potestatem redegit, atque Suleimanus, filius Abdullahi, pugna ab eodem devictus, Rejam primum, tum Bagdadum se recipere cogebatur; ubi a Chalisa Mostaino dux
H. 253. exercitus creatus, ab hujus etiam successore Modtazo singuincep. 10. lari honore affectus est; hinc superstites sibi dies in otio transiJan. A. gebat Suleimanus ad annum ducentesimum quinquagesimum

tertium, quo vita functus est.

Circa eadem tempora, quibus Mohammedes filius Taheri, Chorofanam regebat, Jacub, filius Leify, expugnata, qua
late patet, Siftaniæ provincia, atque pluribus subactis Chorofanæ oppidis, exercitum recta urbem Herat versus duxit,
deturbatoque inde Mohammedis, filii Taheri prætore, urbem ipsam Kuseng, præcipuam gubernatoris sedem, petens, suæ eandem ditionis secit; quo sacto, Mohammedem,
silium Taheri, Nischaburum concessisse, nonnulli asserunt.

H. 257. Anno ducentesimo quinquagesimo septimo Hasan incep.28. Nov. A. quoque, filius Zeidi, Alida, Giorgiam armata sibi ma-C. 870. nu vendicavit; Mohammedes igitur, filius Taheri, dum hæc sibi referrentur, distributa in suos magna pecunia, adversus Hasa-

Hasanum exercitum movere justit. Ast Hasanus suso Chorosanensi exercitu, magnaque edita strage, divitem inde prædam referebat.

Quo pacto cum auctoritate Mohammedis vires etiam ita in dies singulos imminutum ibant, ut hinc non paucis Chorosanæ urbibus Jacub Leisius, illinc Hasanus integra Giorgiæ provincia potiretur. Ipsis illis diebus nobiliorum aliqui, eosque inter Ahmed, filius Fazl, ejusque frater præcipui, e Sistania prosugi, in Mohammedis sidem, ac clientelam se contulerunt. Quos licet Jacub Leisius submissis legatis repeteret, Mohammedes tamen petitioni neutiquam annuebat. Unde novæ, & gravissimæ inter utrumque simultates exortæ sunt.

Anno ducentesimo quinquagesimo nono, castra adversus incep. 6. Nischaburum jamjam movere, Jacubum, filium Leis, au-Nov. Andiens Ahmed, filius Fazl, principem de his edocurus, ad C. 872. Mohammedis palatium cum fratre properat: negabat aditum palatii custos, principem somno indulgere dictitans; at jam instare quempiam, ajebat Ahmed, qui principem de somno excitaturus sit, moxque ad Abdullahum, filium Salihii, se cum fratre proripit, qui imminente Jacubo suga se itidem subtraxerat, sua Mohammedi principi obsequia delaturus. Huic ubi narrasset Ahmedes, quæ sibi, fratrique suo paulo ante evenissent, animadvertit ille, Mohammedem, filium Taheri, nulla omnino tangi cura, suoque ejus principatum jam sini esse proximum. Quare Mohammedi, se se ut Rejam reciperet, auctor extitit, ipse Hasani, silii Zeidi, Alidæ partes amplexus.

Nullo

Nullo de Jacubi Leisii adventu relicto jam dubio, legatum Mohammedes miserat, sciscitatum, quonam Jacubus injusiu principis credentium contenderet? utque, si quæ a principe credentium præsto essent, literas exhiberet, quo iis obtemperaret.

Jacubus, quæ sibi mandata essent, significans, exemto e vagina gladio, hunc diploma, ait, mihi esse scito. His visis Nischaburum ocius legatus repetiit, samiliaresque principis, & regni optimates, nonnullis suorum missis, Jacubo jurejurando sidem sirmavere; ipso denique Mohammede in Jacubi potestatem delapso, omnis Taheridarum dominatus in Chorosana sinem accepit.

Omnium, hujus familiæ, principum præcipua a probitate, & clementia laus est, eorumque sub imperio culta semper, ac florens *Chorosana* perstitit. Horum nomina poeta quidam sequenti carmine complexus est.


> Chorosanæ soboles Mosabi sic regnabat: Taher, dein Talebah, postea Abdullah. Iterum Taher alius, demum ille Mohammed, Qui Jacub Leisio reliquit cum throno thiaram.

Inter alia liberalitatis, & munificentiæ specimina, a Mohammede, filio Taheri, edita, & hoc est. Nischaburi viro, cui Mahmud Warak nomen, puella mancipium erat, venusta admodum, & gracilis, & mira totius corporis conformatione insignis, suavibus itidem recitandis carminibus, & barbito quam dexterrime ludendo mirifica: De egregiis hujus puellæ dotibus ubi audiret Mohammedes, filius Tahe-

ri, mirum quantum ad amorem ejus excitabatur. Ut igi. tur amplexu ejus, quem maxime expetebat, quantocius frueretur, viros iterum iterumque ad Mahmudum mittit, qui puellam maximo quoque pretio sibi adsererent; verum, cum Mahmudus ipse puellæ amore captus esset, negabat, tam dilectam a se citharædam vendi posse. Non multo abhinc tempore, cum, re familiari omni pro puellæ amore profusa, miserrima utrique vita agenda esset, misit denique ipse Mahmudus aliquem, puellam qui offerret principi. Mobammedes hoc nuntio admodum recreatus, mox, drachmarum argenti millia quadraginta Mahmudo pro puella numeraturus accessit hominem. Mahmudus de sede se se proripiens, fimulque puellæ gynecæum adiens, furge, inquit, teque, compositis vestibus, itineri accinge, palatium principis subitura, cui te mancipium vendidi. Perculsa nuntio isto puella, in clamorem, & amarum adeo erupit fletum, ut is ad ipsas etiam principis aures perveniret. Mahmudus vero, quæ, ajebat, tanta tibi modo mæroris caussa esse potest? quin hilarem potius te esse convenit; simul enim, ac principis palatium subitura es, curarum libera, dies quam jucundissimos ages; mea contra sors est, ut reliquam vitam, a te ayulfus, insuavem, ac mœrore plenam exigam. audiens puella, o here! inquit, a te divelli jam omnium mihi malorum maximum est. Cui rursus Mahmudus: o dilecta! nil opum mihi præter te hoc in orbe jam est reliqui, ita, ut te miseram deinceps, & inopem esse, necesse sit; hæc animo volutans, id egi denique, ut vitam, quæ superstes fuerit, placidam, curarumque expertem conficere tibi liceat. Define me vendere, excipiebat puella, certum enim

- كنوس

enim, fixumque est mihi, cum tam tenero nos complectamur amore, iis, quæ ad victum necessaria sunt, curandis
omnem vitam impendere. Si ita est, subjicit Mahmudus,
liberam te a servitute pronuntio, utque uxor mea sis, drachmas novemdecim cum dimidia tibi dotis nomine assigno.
Princeps auditis, quæ Mahmudum inter, & puellam intercesserant, eundem ad se accersitum, iis quadraginta drachmarum millibus, quæ puellæ pretium constituebant antea,
quam liberalissime impertivit, ut commodam & deinceps ambo vitam agere possent. Ipso vero suæ cupiditati imperans,
præclaram nominis sui samam apud posteros reliquit.



# DYNASTIA SOFFARIDARUM.

De fatis familiæ Leis, quæ apud bistoricos Soffaridarum nomine celebris est; & primum quidem de gestis Jacubi, usque dum regno potiretur.

Aseisio, patri Jacubi, fabro arario in provincia Sistan, tres fuere filii, Jacubus, Amru, & Ali, imperio potiti

omnes; quod tamen cum Ali filio rurfus desiit.

Jacubus, natu major, ærariam similiter artem primum exercuit, omnibus, quæ in lucro erant, puerorum victui impensis; idem mox, pubertate transacta, ætatem maturiorem adsecutus, lecto, qui a nutu suo penderet, milite, vias infestare cœpit, id agens potissimum, ut necessaria ad belli ducis partes sustendandas compararet; quare humanitate quadam in hoc vivendi genere, & moderatione usus, non nisi partem transeuntium mercium fibi vendicabat.

Anno ducentesimo trigesimo septimo, cum Chorosana, incep. 4. subjectisque huic provinciis jura daret Taherus, filius Abdulla- 851. bi, vir, claro genere prognatus, Salibius, omnem, qua patet, Sistaniam sibi armis subjecerat; cujus expeditionis Jacubus Leisius particeps extitit. Verum is a Taberi exercitu, eas in partes transmisso, ejectus, Derbemum, filium Nasirii successorem nactus est, coeptas motiones tam impigro, & continenti labore urgentem, ut eundem Taberi exercitum ex

provincia pedem denuo referre cogeret. Ast vero Salibius, certis legum vinculis restringendo militi impar, Leisium imperatorem exercitus designavit, quo factum est, ut milites, perspecta animi imbecillitate, & impotentia sui principis, omnes novo sese duci devoverent, ipso adeo Dirhemo omnis

rei gerendæ provinciam eidem delegante.

Chronicon, vulgo absolutum chronicorum opus inscriptum, a Chorosanæ principe Derhemum fraude circumventum, victumque suisse, refert; quem, captum, Bagdadum miserit; ubi carcere primum detentus, dein vero libertate donatus, totum se Chalifæ obsequiis devoverit. bus interea, dum Derhemus abesset, ad altiores illinc dignitatis gradus a suis evectus, suppressis ibidem hæreticorum motibus, tantam suorum fiduciam promeritus est, nihil ut huic addi posse videretur. Subjecta imperio suo Sistaniæ provincia, Chorosanam versus militem duxerat, sed spe eo anno frustratus, patrias oras relegebat, commodius impetendæ denuo Chorofanæ tempus operiens.

H. 253. incep.10. C. 867.

Anno itaque ducentesimo quinquagesimo tertio, ut su-Jan. A. pra innuimus, Chorosanam rursus cum exercitu suo Jacubus, adortus Heratam, & Fusengiam urbes suam in potestatem redegit, iter in Kermaniam persecutus, unde præse-Etum principis Schirazanæ provinciæ, earum nempe partium gubernatorem, captivum secum abduxerat; directo exin Schirazum versus itinere, ubi, inito rursus cum præsecto provinciæ Farstæ proelio, captoque duce, res ipsi ex sententia successit. His peractis, falcones, decem numero, albos, & totidem variegati coloris, centumque musci minas cum selectissimis aliis diversi generis muneribus Bagdadum mittens, fuam


suam Chalisæ declaravit obedientiam, ductoque secum Chorosanæ provinciæ gubernatore, Sistaniam repetiit.

Anno ducentesimo quinquagesimo septimo iterata in H. 257. provinciam Farsiam incursione Jacubi, offensus Mutamid, incep.28. Chalifa Bagdadensis, viros miserat, qui ex Jacubo quærerent, C. 870. quid sit, quod in provinciam Farsia, nullo pasto sibi concessam, exercitum rursus educeret? quare Mumafik billah, frater Chalifæ, summique consilii vir, penes quem omnis rei gerendæ potestas erat, legatum misit, qui voluntatem principis hisce verbis exponeret: Balcham præter, Tabaristanam, & Sistaniam ipsi concessam esse; e re itaque quam maxime fore, in eas ut provincias concedat. Pedem hinc Jacubus e provincia quantocius referens, maturato itinere, Balcham repetiit, inde, coactis magnis copiis, Kabulum contendit, quam vi expugnavit, ipso regni principe capto. Exinde Heratam, accelerato itinere, petens, & hanc sua potestati subjecit. Atque ab hac denique urbe Nischaburum se convertens, Mohammedem, filium Taheri, data tamen vitæ venia, cum binis, & centum aliis, huic sanguine junctis, captivos in Sistaniam misit, relicto in Chorosana homine, qui vicario eandem nomine gubernaret.

Rebus hunc in modum confectis, Tabaristanam ingreditur, Hasanum, filium Zeidi, Alidam, bello petiturus; cujus expeditionis hæc caussa suit. Abdullahus Sengeri a Jacubo suga se se subducens, ad Mohammedem primo, Taheri silium, Nischaburum consugiebat, tum, de adventu Jacubi certior redditus, inde rursus discedens, Hasani, filii Zeidi, partes sequebatur, ut supra jam meminimus. Hunc igitur tradi sibi per legatos ab Hasano petiit Jacubus. Sed

accep-

accepta repulsa offensus, totum secum exercitum adduxit. Jamque, Saram perveniens, ad prælium expeditum hostilem offendit exercitum; quo nihilo minus fuso, ægre Hasanus in provinciam Dilem fuga elapsus est. Sara interea temporis, Amelam movit Jacubus, ubi anni integri tributum ab incolis exegit. Dilemum inde concessurus erat, quo denuo vindictam de Hasano sumeret; sed enim continuis in itinere quadraginta dierum, noctiumque imbribus infestatus, quadraginta militum suorum millia amisit. Rebus ita infestis, oratorem misit, qui Chalifæ ista nuntiaret: expugnata Tabaristana, devictoque Hasano, filio Zeidi, in spem inducor, fore, ut benigno me animo princeps credentium ex-Ast Chalifa in Chorosanam, Rajam, & Tabaristanam ad optimates mandata miserat, significans: Jacubo, cum ipsi antehac Sistaniæ provinciam concesserit, is vero refra-Etarium, atque rebellem se publice exhibeat, in precibus omnimode imprecandum esse. Ansam autem huic edicto illud præbuit, quod nimirum ægre tulerit Chalifa, familiam Taberidarum captivam a Jacubo in Sistaniam abstra-Etam effe.



Jacubus, filius Leisii, expugnat Farsiæ provinciam, atque acre cum Mensikio, Chalifæ fratre, prælium init.

Dum Mobammedes, filius Wasil Temimi, provinciæ Farsiæ præsectus, supremum ejusdem dominium sibi arrogaret, Musa, Musa, silius Buga, cui Chalise voluntate Bassora, Ahmazi, Jemame, & Farsia, gubernium commissum suerat, Abdürrahmanum, silium Meslahi, ad debellandum Wasili silium ablegavit. Utprimum vero Mohammedes, commoratus Ehmazi, exercitum Bagdadensem adventare intellexerat, obviam consestim prodiit; atque, concurrente in itinere utroque exercitu, accerrima exorta est pugna, ex qua Mobammedes, silius Wasili, victor rediit, Abdürrahmano, silio Meslahi sinistra sorte capto, & mancipato. Hac audiens Chalisa, Mohammedi, silio Wasili, renuntiat, Abdürrahmanum, silium Meslahi, liberum remittat; sed is principis voluntati neutiquam morem gessit.

Hoc ubi nuntium ad aures Jacubi, filii Leisii, pervenit, ille desiderio provinciæ Farsiæ subjugandæ incensus, eas in plagas movit; jamque, acceleratis ubique itineribus, provinciæ territoria subiit, cum ipsum inter, & Mohammedem, filium Wafili, ingens prælium initum est, in quo victoria penes Jacubum erat, vitam cum morte commutante Mohammede. Hinc supremus provinciæ Farsiæ effectus dominus, signum majestatis suæ ad supremum felicitatis apicem evexit. Ubi fummam itaque in hoc regno potestatem adeptus, Bagdadum iter Jacubus instituit; Chalifa, reditum persuasurus, diploma obviam misit, quo ipsi Chorosanæ, Tabaristanæ, & Farsiæ provinciarum gubernacula deferebantur. At enim, Chalifæ legato adveniente, Jacubus neutiquam his literis se contentum, quin Bagdadum iter sibi instituendum esse, affirmavit. Motamidus Chalifa hoc nuntio accepto, Memfikium cum instructo exercitu Jacubo obviam misit, qui post inutilem conslictum dolis militaribus,

machinationibusque, quarum mentio in annalibus passim occurrit, Jacubum Leisium vicit. Ast hic, collecto novo, jamque magis numeroso exercitu, Bagdadum denuo ire contendens, in itinere repente in morbum colicum incidit, atque urgentibus medicis nullo pacto consensit, ut clysterio corpo-

ri subveniret, mortem eidem præferens.

Ejusdem hujus infirmitatis tempore accidit, ut cum Chalifæ legati adventantes, reconciliationis literas, & diploma, quo hic in Farsiæ regimine confirmabatur, adferrent, Jacubus ense, buccella sicci panis, & cepa ante se positis, legatos, accedere jussos, sic compellarit: Chalifæ ex me salutem, dicite, hæcque Jacubi esse verba nuntiate: ægrotus ego nunc decumbo: quod si e vivis excedam, te, manibus meis ereptum, scito; sin longior concessa mihi fuerit vita, me inter, & te hic ensis esto, quo feriam, dum vincam, meoque desiderio satisfaciam. Si tu superior discesseris, ego hoc pane, & cepa vitam transigam, omni imperio abdicato. Discessere legati, neque dum regiam Chalifæ sedem ingressi, cum Jacubus mortem oppeteret.

Princeps hic perspicacissimi erat ingenii, solertissimus justitiæ, ac liberalitatis cultor. Quod si ossicii alicujus obtinendi gratia eum quis accederet, isque ipsi probaretur, ex eo primum, cujus conditionis esset, quærebat, num equum conscendere, sagittam jaculari, gladiove uti sciret, tum cui inserviisset antehac, aut quo in certamine sortitudinis suæ dedisset specimen? postremo demum imperabat, ut, quæcunque seu ad victum, seu vestitum, vel reliqua per annum integrum necessaria essent, homini traderentur. Sin ante anni decursum vir iste denuo quid peteret, illico & ea, quæ

prius ipsi tradita essent, repeti jusserat. Exercitus equi, paucis exceptis, proprii ipsius omnes suere. Pabulum pari-

ter quadrupedum suis ipse sumptibus suppeditabat.

Præterea ligneum suggestum confici curavit, cui insidens, omnem late exercitum oculis perlustrare potuit, &, si quid eorum, quæ ad exercitum pertinent, minus ipsi probabatur, confestim mutari justit. Mille porro delecti ipsi erant prætoriani, quorum cuique fustem, auro conflatum, & mille miskal appendentem tribuit; hoc eodem modo alios mille fustes, liquato ex argento confectos, mille itidem prætorianæ cohortis viris divisit, quos hi in itinere humeris imponebant. Arcanorum autem confiliorum, neminem compotem fecit, nec cum ullo de regni negotiis tractare folitus. Hoste devicto, nulli militum licebat injussu suo prædam capere. Pone suum tentorium semper alterum extrui curavit, in quo famuli, & mancipia commorabantur, quorum, urgente aliquo negotio, unum, pluresve evocaret, qui justa Quotidie in ejus culina oves viginti in quinque facerent. ollis coquebantur; primam portionem famuli aulici fibi vendicabant, reliquæ principis familiaribus distribuebantur. Cum legatorum aliquis ipfi quondam dixisset: tu tibi principatum arrogas, & in tentorio tuo præter stratum, cui infides, armaque, quibus accingeris, nihil invenitur! reposuit ille : quidquid princeps sibi peculiare habet, id servi quoque illius assumere consueverunt.

Inter alia, quæ mira de Jacubo narrantur, & illud est: reserebatur, Abu Jusuf, Jacub, Ibn Sosian, Chalisam Osmanum, filium Ufan, convitiis petere; præcepit illico princeps, præsentem sibi sustent Abu Jususum, pænam de il-

lo summere constituens. Ejus vero Vezirius: O princeps principum! ajebat, hic vir minime Osmanum convitiis insectatur, sed ejus verba solum negant, Osmanum prophetæ samiliarem suisse; quibus auditis liberum illum arbire jussit, subjiciens: mihi nil negotii est cum samiliaribus prophetæ.

Omnes, quibus imperio potitus est Jacubus, undecim

anni fuerunt.

## Amru Leis in imperio succedit.

Defuncto Jacubo Leisio, frater ejus Amru Leis imperio potitus, legatos ad pedes throni Chalifæ misit, qui suæ illi obedientiæ, sideique testimonia exhiberent. Hac ratione obtinuit, ut inaugurationis diploma, quo ipsi imperium in Chorosan, Iraki ægem, & Farsia una cum vicaria Bagdadi administratione concedebatur, sibi mitteretur.

Amru hoc sibi collatum beneficium grato accipiens animo, Abdullahum, silium Taheri, in Babylonia vicarium sibi substituit; ipse vero Kaswinum, indeque Rajam contendit, eo, quod iis in terris Mohammedes, silius Leisii, pecuniis publicis præsectus, ab Amru eo missus, rebellem se, ac refractarium exhibuerit. Quare ipse Amru eas in plagas conversus, cum Mohammede armis congressus est. Quo devicto primum Istacharum, & mox Schirazum petiit, atque eo, quo Shirazi commoratus est, tempore tercenta aureorum millia, quinquaginta minas ambræ, ducentas mi-

minas ligni aloe, trecenta volumina panni sericei, acu phrygia intertexti, vascula ex auro tracto tercenta, & totidem denique jumenta Memsikio, Chalisæ fratri, a cujus nutu pendebant omnia, muneri dedit.

arting distributions

Anno ducentesimo septuagesimo primo variæ, graves- H. 271. que querimoniæ contra Amrum a Chorosanæ incolis apud incep. Chalifam jactabantur. Quare hic, advocato Chorofanæ fatra- A.C. 884. pum concilio, ego, ajebat, Chorosanæ imperio Amrum exuo, vos itaque illi imprecemini, necesse est. His declaratis, Zeid, filius Muchaled, comparato magno exercitu, principis justu, ad debellandum Amrum, ex urbe Waset versus Farsiam contendit. Obviam essusa utraque acie, atrox prælium commissum est, in quo flamma mutui conflictus ab ortu diei ad occasum usque arsit, & postremo denique zephirus victoriæ vexilla Chalifæ perflavit. Centum viri nobiliores in Amru exercitu desiderati sunt, duce quoque Derbemo gravi vulnere sauciato; ipseque Amrus cum iis, qui a clade superstites suere, suga se se periculo subduxit. Babylonicus contra exercitus magna præda potitus est. Amru interea in provinciam Farsiam se contulit. Ouæ res cum ad aures Mewfikii pervenisset, hic prius, quam Amru in Schiraz considere posset, eo movit. Quare videns Amru, nullam sibi resistendi facultatem superesse, in Kermaniam discessit, inde in Sistaniam, ex Sistania vero in Chorosanam, ubi iterum ipsi cum Rafi, filio Herzeme, depugnandum erat, qui ea tempestate in religionis negotio novas res molitus est; namque in publicis precibus nominis Mohammedis, filii Zeidi, de gente Alidarum, mentionem fieri voluit. Hunc Amrus felici pugna superavit, ejus capite Bagdadum misso.

Qua re rursum Chalifæ gratiam iniit, adeo, ut princeps nomen illius omnibus vexillis inseri jusserit.

H. 284. Anno ducentesimo octogesimo quarto Chalifa turincep.7. Feb. A.C. mam, ex Chorosan ad loca sacra peregrinantem ad se se evo897. cavit, præcepitque, ut, cum imperium Chorosanæ, Transoxanæ, itemque Farsiæ, & Kermaniæ nomini Amru Leisii inscriptum esset, eum iis in terris principem agnoscant.

H. 286. Anno demum fexto, & octogesimo supra ducentesimum incep.17. ab Amru ex provincia Chorosan submissa, nova munera ad Cha-Jan. A. lisam pervenere. Hæc inter & idolum aureum erat, cujus quatuor numerabantur manus, & a cujus auribus duæ, gemmis distinctæ, pendebant inaures; id tergo bovis imposuerunt, qui camelum magnitudine æquabat. Hoc itaque simulacrum primum ad palatium Moatesidi adportatum, postea versus orientalem Bagdadi partem, qua vicarii provinciæ residere consueverant, delatum, post triduum vero thesauro urbis adjunctum est.

Amru Leisius infelix cum Ismaele, filio Ahmedis, Samanida, prælium init, in quo captus, regnandi finem fecit.

Divulgato rumore, provinciæ itidem Transoxanæ gubernationem a Chalifa Amru Leisii curis concreditam esse, mox hic vicario nomine Mohammedem, filium Beschiri, e familiaribus unum, quin intimorum suorum unicum, cum exertu adversus Ismaelem, Samanidam, iis regionibus præsetum,

Elum, misit. Contra Ismael, trajecto quantocius Oxo, ad prælium paratus, exercitum in aciem explicuit. Utrinque acerrime dimicatum est, quoad Mohammedes Beschirius morte occumberet, ejusque copiæ, in sugam actæ, ad principem suum Amru Leissum se se reciperent. Amrus itaque præsens ad novum ineundum cum Ismaele bellum comparabat omnia, invitis licet satrapis, id minime in præsens conducere adserentibus, satius esse, si sufficientes militum copias submitteret. Sed enim in irritum cadebat consilium. Balcham interim petente Amru, ab Ismaele pervenit nuntium, cujus hoc erat argumentum. Deus ter optimus maximus amplum tibi concessit imperium, neque illud ego tibi invideo; hisque circumscriptus limitibus contentus vivo. Quare & a te id mihi sperare liceat, hoc in terrarum angulo, qui certe exiguus est, ne mihi insessus sis.

Amru his minime annuens, viam denuo ab Indo fluvio repetiit; Ismael pariter, exercitum suum movens, simul cum Amru, trajecto slumine, in Chorosana consederat, ita, ut ob immensum militum numerum Amru Leisio neque progredi, neque regredi licuerit. Haud longo post temporis intervallo, se se oppressa esse, ejus sensere copiæ, atque in hoc ancipiti rerum statu Amru Leisio principi persuasum est, silvam versus ut recederet. Quare, jusso ad dextram iter instituere exercitu, ipse in silvam se recepit, ubi equus ipsius, roseto implicitus adhæserat, quo in loco ab iis quoque paucis, qui eum comitabantur, desertus, ab insequente Ismaelis equitatu captus est.

In nonnullis historicis perhibetur etiam, Ismael Samanida a Moatesido Chalisa, nullatenus secundis Amru d 2 Leisii Leisii rebus favente, inductus suisse, ut cum decem virorum millibus, de quorum equis ut plurimum stapedes lignei pendebant, Oxum trajiceret, bellum Amru Leisio illaturus. Hunc quoque cum octoginta paratissimorum equitum millibus illi obviam processisse, atque, dum uterque sua extenderet cornua, accidisse, ut equus, cui Amrus insidebat, agilis nimium, minusque fræni patiens, in gyrum se se agitare inciperet, herumque, id minime suspicantem, in medium hostium inferret. Hinc Ismaeli, nullo prosuso sanguine, cumulatam obtigisse victoriam, toto Amru Leisii exercitu in deditionem accepto. Ipse vero Amru captus, in tentorium quoddam illatus est.

Hic, nescio, quo fato, transibat quidam ex iis Amru servis, qui tentoriis figendis præsunt, hunc ad se evocat, petitque, modicum quid ad comedendum sibi pararet. Servus aliquantum carnis reperiens, eam lebeti æneo, quo potus alias præberi equis assolet, imponit, eoque suspenso, & supposito igne, ad alia ligna colligenda discedit. At enim sortuito accurrens canis, & lebeti caput imponens, os sibi vehementer adussit adeo, ut, retracto confestim capite, collo ejus lebes adhæserit, eoque gravatus aussugerit. Viso hoc, in magnum Amru solutus risum, ab excubitorum aliquo, quæ risus caussa sit ? interrogatur. Respondens Amru, hoc mane, ajebat, meus dapiserorum magister conquestus est, tercentos camelos rei culinariæ serendæ non sussicere, & nunc vesperi ipsis hisce oculis conspicio, canem unicum hæc omnia sacile asportare posse.

Referent aliqui, Ismaelem, ubi Amru Leisius captivus in conspectum ipsius adductus erat, osculum huic in fa-

ciem

29

ciem fixisse, cum hoc dicto: tu mihi summe venerabilis frater es, vesteque pretiosa eum induisse, atque jurejurando affirmasse, nullo pacto se malum illi insligere velle. Eum denique, cum Oxum versus iter relegeret, secum duxisse.

Capto Amru Leisio oratorem Ismael ad Chalifam ablegarat, quæ accidissent, nuntiaturus. Hæc inaudiens Chalifa Moatesidus, bene Ismaeli precatus, maledicta in Amrum conjecit. Haud longo post tempore legatos & ipse ad Ismaelem misit, qui Amrum sibi tradi deposcerent. Ismael contra ex suis deligebat quosdam, qui Amrum Chalifæ adducerent. Dum in vicinas Babyloniæ partes venissent, camelum conscendere jussum, Amrum in urbem introducunt. Chalifa captivum conspiciens, in has erupit voces: Deo sint laudes, quod te in manus meas adduxerit, tuisque meritis mercedem dignam tribuerit. Quo dicto custodiri eundem jusserat.

De obitu viri hujus varia narrantur. Referunt nonnulli, Chalifam jam morti proximum, carcerum præfecto, ut occideretur, in mandatis dedisse. Dicunt alii, Amrum, cum morbo infestaretur Chalifa, e memoria omnium elapsum suisse, adeo, ut same perierit. Sunt, qui narrent, luctantem cum morte, Chalifam ad se evocasse præfectum carcerum, signumque illi dedisse, ut Amrum de medio tolleret; hunc vero, ubi & ipsum Chalifam brevi vita suncturum viderat, sanguine ejus sibi manus polluere renuisse. Succedenti in Chalifatu Muktesso, interrogantique, quid Amrus ageret, responsum, eum adhucdum in vivis esse. Hoc mirum quantum lætatus propterea, quod multis antehac Amri beneficiis, & favoribus auctus suisset, misericordiam illi adhibere, & beneficia

d 3 red-

reddere constituit. Kasimus autem, Chalifæ Vezirius, videns, Muktesium savoribus cumulare Amrum velle, pro sua, qua jam antea in hunc serebatur, inimicitia homines ad carcerem dimittit, qui illum intersicerent, atque hæc Muktesio renuntiarent: opinabamur equidem, adhucdum Amrum in vivis esse, verum, rem propius perquirentes, contrarium reperimus. Demum annis tribus, & viginti regnasse dicitur.

In chronico itidem, Fabrica mundi inscripto, refertur, in monumentis, ab Amru relictis, & vetustum illud, quod Schirazi extat, fanum numerandum esse. Dicitur porro, præter alia id moris habuisse Amru, impuberes ut servos coemeret, eosque, ubi, data opportuna educatione, maturiores extiterant, regni sui optimatibus dono offeret. Hæc vero mancipia singulari savore prosequebatur, id quod essicit, ut sibi clanculum referrent omnia, quæ ab heris sieri contingeret. Optimates hujus technæ inscii, in eam opinionem devenere, principi turbam geniorum samiliarem esse, quidquid occulto sieret, ipsi renuntiantem. Eaque de caussa sibi in suo vivendi genere cavebant.

Amrus uno tantum oculo præditus, admodum violentus, & sanguinis appetens erat. Pecuniæ exactorem in provincia Farsiæ habuerat, Abul Husein nomine; hunc aliquando, indignatione commotus, omnia sua divendere, sibique collectam inde pecuniam tradere justit. Hæc quidem justa cum seliciter executus suisset, Amrus rursum illi in mandatis dedit, centum drachmarum millia intra triduum adserret, adserens: si hæc præstiterit, bene ipsi sore, sin minus, morte pænam ipsi luendam esse. Abul Huseinus itaque hominem sidum ad Abu Zeidum, scribam principis, ablegat,

togantem, vadimonium pro se sisteret, quo ipse libere interea carcere excedens, data opera, petitam a se summam cogere posset. Abu Zeidus sponsionem equidem in se suscepti, verum Abu Huseinus, carcere interim liberatus, quantumcunque etiam adlaboraret, præscriptam summam nequaquam consicere poterat. Post triduum igitur, ad Abu Zeidum, redux tristem conditionis suæ statum exposuit, subjiciens: veni, ut me rursus custodibus tradas, tuque sponsione tua libereris. Unde is Abu Huseinum iterum carceri mancipavit. Rarum dein eventum edoctus princeps, in hæc verba erupit: incertus hæreo, num spondentem Abu Zeidum scribam, an reducem Abu Huseinum admirer magis. Data itaque culpæ venia hunc princeps liberum dimist.


Narratur item, Amrus præcepisse, ut vacui ex corio sacci, camelis impositi, per tempus aliquod secum una deferrentur, conscio nemine, quid huic rei mysterii inesset. Dum ecce inopinate a præsixa via ad extirpandas quasdam rebellium turmas deslecteret, in via sluvius obstitit, qui trajici nequierat; hos itaque vacuos ex corio saccos sapidibus repleri, & in sluvium ea copia demitti princeps jusserat, ut aquam æquarent; reliquis deinde, congesta undique terra repletis, viam sibi per sluvium stravit ipse, ut ita cum exercitu sibere transierit.

Illud quoque referunt, ex omnibus optimatibus, & familiaribus neminem tantum apud Amrum valuisse gratia, quantum Mohammedem, filium Beschiri. Huic die quapiam, quæ perpetrasset, plurima crimina exprobans, eadem ordine recensere cæperat; tum Mohammedes interpellans principem, gravissimo jurejurando interposito, per Deum

fidium

fidium! ajebat, nil auri mihi præter quinquaginta Bedre in loculis est, quam etiam summam thesauro tuo traditurus sum; non opus est, ut ob crimina, non commissa, me reprehendas. Ad hæc Amrus; negari certe nequit, perspicaci te ingenio esse præditum. Prædicta igitur summa a Mohammede gazæ principis tradita Amrus eo contentus suit.

Jusserat Amrus quodam tempore exercitum suum se coram consistere, arma, & equos lustraturus. Singulos itaque in campo vasto equites transeuntes conspiciens, quænam arma meliora, qui equi melius nutriti essent, perquirebat. Tum ecce in virum incidens, equo, macie desormato, insidentem, an non, inquiebat, jure merito mirantur homines, ab equitibus, dum suas uxores saginant, equos negligi. Vir, hisce verbis auditis principis, consestim de equo desiliens, atque ad pedes principis provolutus, o princeps! ait, mea uxor decies etiam hoc equo macilentior est, & si hoc credis, etiam illud te scire, necesse duxi. Hoc sermone delectatus princeps, rem hujus domesticam largis muneribus auxit.



Taherus, filius Mohammedis, filius Amru Leisii regnum capessit.

Amru Leisio irrevocabili fato in captivitatem delapso, optimates, nobilioresque Sistaniæ viri Taherum ad thronum evexere; hic, collecta magna militum copia, provinciam

ciam Farsia ingressus, expulsoque inde eo, qui ad exigendas publicas pecunias a Chalifa eonstitutus erat, Abmasium se convertit. Chalifa vero, misso cum muneribus Abdullaho, silio Fetebii, apud Ismalem institir, ut exercitum Taheri ab his novis motibus prohiberet. Is itaque in hanc sententiam Tahero scribit: Sistaniam tibi, ea tamen conditione, tradit Chalifa, nulla ut interposita mora eo revertaris. Et Taherus, lesta Ismaelis epistola, illico etiam Sista-

niam repetere constituit.

Chronicum, Series rerum nuncupatum, rem ita narrat: Taherum, nempe muneribus demulfisse Ismaelis animum, ab eoque petiisse, ut sibi emphiteusis titulo quarundam, quas progenitores ipsius antea possedissenr, provinciarum usum a Chalifa obtineret. Ismael, muneribus grato animo acceptis, oratorem ad Chalifam concedere jubet, qui, quæ Tahero in votis essent, quæque sibi largitus suisset munera, exponeret. Motus Ismaelis, Samanidæ, precibus Chalifa, si præfectorum singuli, reposuit, qui in subjectis potestati nostræ præfecturis centum, & unus existunt numero, tantundem, ac Taherus, darent, se omni certe ex parte contentum fore. Diploma itaque concessionis cum inaugurationis insignibus Chalifa Tahero submiserat, qui e Sistania post hæc Schirazum condendebat.

Luna, Rebbiulemel dicta, anni ducentesimi nona- H. 293. gesimi tertii Abu Kabusus, qui ex Taheri optimatibus incep. I. unus, cum pluribus aliis Bagdadum advenerat, cujus hæc C. 905. ratio erat: Taherus compotationi, musicæ, & venationi unice deditus, in Sistaniam concedebat; Leisius vero, silius Ali, silii Leisi, Sosfaridæ, & Segberi, libertus Amru Leisi,


inte-

imerea temporis Schirazum pervenientes, varias cum Kabuso contentiones habuere, ita, ut hic, offensus animo, ad aulam Chalisæ transierit, omni una cum suis honorum genere a Chalisa affectus. Taherus contra per literas Chalisæ significabat, Abu Kabusum ex reditibus annuis subripuisse quidquam, sibi igitur aut virum, aut ablatas pecunias restitueret. Sed enim istis neque quidquam respondit, neque sidem adhibuit Chalisa.

H. 296. Anno ducentesimo nonagesimo sexto Taherum inter, incep. 29. & Segberum, libertum Amri, exortæ lites bello tandem comC. 908. positæ sunt, in quo Taherus succubuit, captivus cum fratre Jacubo a Segbero ad Chalisam Bagdadum transmissus,

qua ratione ipfius imperium defiit.

In chronico, Fabrica mundi dicto, memoratur, tempus regni Taheri fex annorum nonnisi spatio definitum suisse, captoque Tahero, silio Mohammedis, silii Amru Leisii, Sossaridæ, alium quempiam, nomine Leisium silium Ali, silii Leisii, simul cum fratre Maadil per dies aliquot potentiam quampiam, & regni sastum ostentasse; ast captos pariter, cum Sassaridarum imperium ad præsixum pervenisset terminum, Bagdadum transmissos suisse.



Amru, filius Jacubi, filii Mohammedis, filii Amru, filii Leis, ad imperium evehitur, atque cum Ahmede, filio Ismaelis, in Sistania arma confert.

II. 300. Anno tercentesimo Sistaniæ provinciæ incolæ ab imperio incep. 17. Ahmedis, filii Ismaelis, desecere, cujus hæc erat caussa: Moham-

Mohammedes, filius Hermuzi, e Sistania oriundus, atque e secta schismaticorum, qui Charigi compellantur, multos sibi asseclas comparans, resractarium se se gerere cœperat; die quapiam ad Abu Huseinum Ali, filium Mohammedis, filii Arizii accessit, negotium speciale sibi deserri postulans. Verum Huseinus: jam lassa, reponebat, te obruit senectus, magisque tibi, angulum quempiam ingresso, competit, ut reliquos vitæ dies in oratione transigas. His verbis commotus Mohammedes, filius Hermuzi, mox iter in Sistaniam ingreditur, hac super re cum reliquis sectæ hujus asseclis consulturus; atque id agebat potissimum, ut, Mansuro, filio Ishaki, Samanida, ex urbe ejecto, rursus, e samilia Sossaridarum unum, sibi principem deligerent, quibus alioqui Sistaniæ imperium ex æquo competeret.

Consentientibus uno animo sectæ hujus asseclis, in Amru, silii Jacubi, clientelam primus omnium se consert Mohammedes, silius Hermuzi; simulque Mohammedem, silium Abbasii, quem Ebni Chafar dixerunt, sectæ suæ principem,

novo principi affiduum comitem addidere.

Amru itaque, ad regnum evectus, Mansurum, filium Isbaki, Samanidam, catenis vinctum arce concludi justit; jamque per totam Nimruz regionem, filii Jacubi in precibus publicis mentio facta est.

Ahmedes, filius Ismaelis, allato hac de re nuntio, Huseinum, filium Ali, designavit, qui ad hos motus compescendos illuc se cum exercitu conferret; is, ad hæc comparatus, in Sistaniam etiam perveniebat, urbem per novem menses arcta obsidione premens. Fatis hæc inter concedente Mohammede, filio Hermuzi, Amrus, filius Jacubi, at-

que

que Ebni Chafar, cœpto insistendo impares, data securitate, se se dedidere, unde & Mansurus, filius Ishaki, carcere liberatus est.

Huseinus, filius Ali, præ reliquis Ebni Chafaro veniam fecerat, se se comitandi, dato etiam cubiculariis mandato, ut, quocunque tempore Ebni Chafarus ad se accedere cuperet, ne impedirent; verum, quoniam Ebni Chafar de medio Huseinum tollere satagebat, idque huic innotuerat, Ebni Chafarum in custodiam dari justit.

De expugnata denuo Sistania certior redditus Ahmedes, filius Ismaelis, gubernatore ejus Simchordewao, denominato, Huseinum ad se evocat, qui cum Amru, filio Jacubi, Ebni Chafarum secum Bucharam duxerat. Hac ratione regnum Nimruz in numerum provinciarum, quæ a Diwano Samanidarum pendebant, iterum adsertum, illo in statu usque eo permansit, dum Chalefus, filius Ahmedis, principatum sibi arrogans, suo demum nomine preces publicas in Sistania sieri curaret.

NO CA

Chalefus, filius Ahmedis, in Sistania rursus ad principatum pervenit.

Historiographi nonnulli asserunt, Chalesum, Jacubi Leisii silii nepotem suisse; Ebni Esir celebris alias historicus contendit, matrem Chalesi augustam principis Omari, silii Leisii, suisse siliam; Abmedes itaque pater Chalesi, secundum hanc opiepinionem necessario Jacubi filius extitisset, nullo contra historicorum admittente, Jacubum habuisse filios. In libro,
Mirabilia Hamadanensia inscripto, narratur, in bistoria
gentium eundem hunc Chalefum duobus simul regibus, Jacubo nimirum, & Amru consanguinitatis necessitudine conjunetum suisse.

more didde seem

Quidquid sit, Chalefus, filius Ahmedis, celebratur ob singulares animi dotes, excellentem scientiam, benignitatem, suumque erga doctos amorem, singularem denique adversus viros probos reverentiam. Poetæ varia in laudem ipsius edidere poemata. Abulfethius, ex urbe Bost oriundus, memorat, se in laudem Chalesi tria concinnasse disticha, neque id in animo habuisse, ut in notitiam principis devenirent; sed hæc omnis sere populi ore recitata suisse adeo, ut ad augustas principis aures penetraverint. Hunc itaque in benigni animi contestationem sibi tercentos denarios submississe.

Anno tercentesimo quinquagesimo tertio Chalefus, H. 253. silius Ahmedis, peregrinationem sacram peragens, Taherum, incep. 18. silium Huseini, sibi sanguine junctum, vicario sui nomine C. 964. gubernatorem Sistaniæ constituit, qui vero, degustatum imperium sibi perquam gratum accidere, sentiens, Chalefo, redeunti Mecca, ingressum in provinciam suam negavit. Hic itaque Bucharam se convertens, Mansuri, silii Nuhi, opem implorabat, qui præcepit etiam, ut Chalefum validus exercitus in Sistaniam comitaretur. Taherus, exercitui Bucharensi resistendo impar, in Esferain interea temporis se se recepit; Chalefus autem, ubi rursus regno Nimruz se restitutum cernebat, Mansuri exercitum dimisit.

Aft

38

Ast Taherus, accepto nuntio, exercitum Bucharensem in patriam rediisse, Sistaniam armis iterum invadit, Chaleso & secunda vice ad Mansurum se recipiente. Mansurus, qui, quidquid magni, generosique animi est, hic loci exhibere, non dubitavit, hac altera quoque vice Chalesum, rebus omnibus, quæ principi competunt, instructum, ad propriam suam sedem deduci jussit. Sed enim antequam Chalesus attingeret Sistaniam, vita sunctus est Taherus, sibi

filium Huseinum substituens.

Chalefus igitur voti compos redditus, acri Huseinum in urbe, in quam se recepit, obsidione presserat, magna utrinque per assiduos conslictus, quoad obsidio durabat, hominum copia intereunte. Tum Huseinus, ad extremas angustias adactus, viros Bucharam ablegat, omni meliore ratione suo nomine vitæ veniam a Mansuro precaturos. Is igitur literas exaravit, queis ipsi gratiam impertiebatur, subjiciens: tuto civitate excederet, quin nemo ipsi, aut suis incommodum adserat, omnes demum Bucharam adducerentur. Literis hisce ad manus Huseini consignatis, ipse, nulla interposita mora, cum suis Bucharam contendit, in principis etiam tutelam ibi receptus.


Elapso nonnullo jam temporis spatio, ex quo Chalefus imperium recuperabat, ob summam persolvendam, quam
Bagdadum annis singulis missurum se se obstrinxerat, caussas prætexere cæpit; id quod Mansuri animum ad indignationem commovit, adeo, ut extemplo Huseinum, filium Taberi, ad debellandum Chalefum cum instructo exercitu dimiserit. Verum Huseino cum milite Sistaniam ingresso,
Chalefus in arcem Direk, munimentorum omnium validis-

fimum,

fimum, se receperat, quam septem omnino annos obsessam Huseinus tenuit, quin essicere quidquam potuerit. Huic igitur Mansurus, qui negotium isthoc ad sinem perduceret, Abu Alium, Semgiurium, substituit, Chorosanæ jam ante Huseinum præsectum, quem inter, & Chalefum antea amicitia intercessit; Abu Alius itaque, ubi prope ad arcem venerat, clam sidos ad Chalefum nuntios ablegat, qui renuntiarent, necesse fore, ex hac arce in aliam ut se recipiat, hac enim ratione & sibi redeundi in patriam copiam sieri, &, ubi discesserit, se quam optime nosse, quid denuo saciendum supersit. Chalefus petitioni Abu Alii annuens, ex arce Direk in aliam, Tarik nomine, transiit; Abu Alius igitur, arcem Direk ingressus, eam se occupasse, ostentabat.

Eo porro tempore in ipsa Samanidarum familia jam perturbationes subortæ sunt: unde sactum, ut hinc minus religiose ea, quæ cujusque officii suerunt, persicerent, illinc vero finitimi principes, regionibus alioqui Samanidarum imperio subditis inhiarent

perio subditis, inhiarent.



Quæ inter Chalefum, filium Ahmedis, & Subugteghini sobolem, Nassereddinum videlicet, filiumque hujus, Seifeddin Mahmudum gesta suere.

Nassereddin Subugteghino quondam ad bellum sacrum in India partes converso, urbs Bost ob augustam principis absentiam incustodita manebat; hinc Chalefus, silius Ahmedis, opportunam hanc sibi occasionem ratus, Bostam ingressus est, unius

unius anni tributum ab incolis exigens, atque relictis ex exercitu suo in arce custodibus, iter in Sistaniam repetebat. Verum simul atque Nassereddinus ex India reversus est, relictæ in urbe Bost a Chaleso custodiæ egrediebantur, ob quod facinus temerarium maxima succensus est ira. Quare Chalesus, bene gnarus, eum se non esse, qui armis cum Nassereddino concurrere posset, exacti ab urbe Bost tributi sumam ipsi cum multis muneribus aliis transmist, sacti veniam petens, quam is etiam, deprecationis hujus modo rato habito, ipsi concesserat. Simultates equidem & vice alia ipsum inter, & Emir Subugteghinum exortæ sunt, quæ tamen Abul Fethii, Bostiensis, interventu, & commonitione bona pace discutiebantur.

Chalefus, filius Abmedis, auctus jam viribus, neque minori numorum vi in thefaurum illata, Kermaniæ animo inhiarat. Verum, cum ipsum inter, & Assadeddewlet firmum amcitiæ vinculum intercederet, ab hoc proposito rursus desistebat. Sed enim, Assadeddewlet fatis defuncto, ut Samsamiddewlet regni gubernacula Schirazi susceperat, filium suum in Kermaniam expediit, quo præter spem omnium ibidem comparente, Timur Taschius, familiæ Deilemidarum nomine provinciæ præfectus, necessitate adactus, ad arcem Berubsir Samsamiddewlet his perceptis, non ignarus, Timur Taschium inter, fratremque suum Behaeddewlet maximam intercedere amicitiam, Abu giafarum cum copiis ablegat, qui Timur Taschium catenis oneraret. Abu Giafarus itaque, ubi arcem Beruhsir attigerat, Timur Taschium, dolo captum, Schirazum misit, quo sacto, ipse ad Omarum, filium Chalefi, debellandum se accinxit. Omaro

& ipso cum suis in viam se dante, ambo brevi post tempore exercitus fibi obviam facti, prælium iniere, ubi, magna utrinque edita strage, Abu Giafarus campo tandem excedere cogebatur. De adverso rei eventu Samsamiddewlet certior redditus, Abbasum, filium Ahmedis, delegerat, qui magnam fortissimorum militum copiam eo deduceret. Neque fua ex parte Amrus cunctabatur, novo huic duci cum fuis obviam procedere. Collata itaque in confinibus Sirgian fuere arma, verum non eodem rerum fuccessu; Amrus enim magna affectus clade, & potissima nobilium exercitus sui parte in captivitatem delapsa, & ipse in Sistaniam se se recipere cogebatur. Unde pater ipsius tantam indignationem conceperat, ut eum gravissime reprehenderet; nec satis: catenis vinctum in carcerem conjici, quin post dies aliquot e medio illum tolli jusserat. Verum enecati corpus, & sacra ipse lotione purgarat, & precibus super illum a se sus, in mandatis denique dedit, sua ut in arce sepeliretur.

Haud longo post tempore Samsamiddewlet, a Kermaniæ præsectura Abbasum, silium Ahmedis, amovit, Ustad Hermuzum in hujus locum susticiens. Quare Chalefus, silius Ahmedis, id unum laborans, ne Ustad Hermuzus susticies pariter terris inhiaret, literas exaravit, queis eum de suo colendæ mutuæ amicitiæ, ac pacis integre servandæ studio certiorem redderet; legationem itidem constituit, cui Abu Jususum, judicem Sistaniæ, præsiciebat, virum integerrimæ vitæ, piumque, & a populo summa veneratione cultum, qui, quam religiosus in conservanda pace esse velit Chalefus, pluribus exponeret. Isti & alium, sibi sidum, hominem adjunxit, cui, portione toxici clandestine tradita,

hæc

hæc imparabat, dicens: ubi Abu Jusufus cum Ustad Hermuzo collocutus fuerit, hanc is ut portionem fumat, effice, tum in populo hunc rumorem sparge, ab Ustad Hermuzo Et vero perficiebat indigna interemtum fuisse judicem. factu vir abjectissimus, ubi in Kermaniam pervenerat; tum dromedario insidens, atque in Sistaniam redux, rem eo modo per vicos divulgaverat, ut fibi clanculum fuggesta erat. Hæc inter Chalefus optimates, atque nobiliores Sistaniæ ad se se evocans, hisce verbis eos affatus est: necesse est, a familia Deilemidarum sanguinem viri hujus repetere, & vestra igitur interest, ut omnem in id operam impendatis; hi vero, clamorem, luctumque edentes, unanimi voce se promptos fore, reponebant. Exinde filium suum Taberum delegit, qui, magno stipatus militum numero, versus Kermania confinia moveret. Maxima vero pars copiarum, quæ Deilemidis obtemperabant, Zemamiæ erat, atque hac versus Taberus etiam gressum dirigebat, ubi, inito cum Deilemidis certamine, victor discessit, Deilemidis ad arcem Budesir se se recipientibus. Hos insecutus Taberus, arcem milite circumdat, atque per tres menses tam arcta obsidione premit, ut obsessi, in extremas jam adducti angustias, Ustad Hermuzo per literas fignificaverint, fi fibi fuppetiæ ab eo mitterentur, sane quam opportunum sore, sin minus, arcem se se obsidentibus tradituros. Ustad Hermuzus, his commotus, ad fervandam arcem contenderat; ut vero his locis proximior factus est, Sistanienses in suam denuo patriam reversi sunt.

Jemineddewlet, filius Subugteghini, armis Sistaniam itidem impetiit, cujus expeditionis hæc caussa erat: Jemineddewlet Mahmudo centrum regni Chorosanæ, milite vacuum, re-

Tinquen-

linquente, arque in Transoxanas provincias concedente, Chalefus filium suum Taherum in Kuhestaniam contendere jussit; unde is, & in Chorofanam descendens, urbem Fuseng suæ potestati subjecit; qua tempestate cum urbe Herata eandem etiam hanc urbem Fuseng gubernabat Beikara Hak, patruus Jemineddewlet Mahmudi. Rege Jemineddewlet, ab expeditione Transoxana reduce, Beikara Hak patruus ejus assensum petiit, quo Taberum rursus e terris hisce expellere sibi liceret. Facile itaque in id consentiente patruo, eo proficiscitur. Taberus quoque, ex urbe Fuseng cum suis egressus, longo ordine dispositum, atque ad pugnam paratum habebat exercitum. Quare utrinque armis quam acerrime concertatum est, dum Taberus tandem acie excedere cogebatur, quem ipse etiam Beikara Hak insecutus est, qui jam plurimis Taberi comitum cæsis, spoliisque opimus, vino indulgere, & ob amplam adeo fibi partam fortunam gloriari cœperat. Verum, cum male cautus, cum equo liberius in campo excurrit, ecce! Taberus, adductis habenis, e fuga regressus, tum Baikara Hakum a tergo adortus, uno ictu in terram exanimem prosternit; atque de equo desiliens, capiteque a trunco resecto, equum cum novo spolio rursus conscendens, in Kuhestaniam revertitur.

Alia item caussa, quæ Sultani Mahmudi animum a Chaleso abalienabat, ea erat, quod ille inaudierat, Chalesum eo tempore, quo ipsi de Nasserehdini obitu renuntia-

tum est, nimiam lætitiam præ se tulisse.

Jam omnia Sultano Mahmudo ad suscipiendam in Si-H. 390. staniam expeditionem in promptu erant, cum anno denique incep. 12. Dec.A.C. tercentesimo, & nonagesimo signa victricia eo converteret. 999.

cha-

H. 391.

Chalefus se recipiebat in arcem Asfebbud, adeo altam, ut, nubibus tecta, ipsa adeo astra attingere videretur; instabat tamen Mahmudus, tamque arcta obsidione septam tenebat arcem, ut Chalefus, omni spe frustratus, id unum expedire sibi existimaret, siquidem cum omni animi demissione se se dederet; misit igitur cum centum aureorum millibus, aliisque donis, qui suo nomine veniam a Mahmudo peteret.

Quantumvis autem Sultano Mahmudo propositum suerit, omnem regionem, Nimruz dictam, cum adjacentibus terris a Chalefi jugo penitus liberare, in aliud id tamen tempus differebat, iis tum curis distentus, ut in Indiam iter institueret.

Anno tercentesimo nonagesimo primo Taherus, filius incep. 30. Chalefi, adiit Kermaniam, cujus hæc caussa suit; post Mahmudi e Sistania discessim Taherum inter, patremque ipsius Chalefum dissensiones subortæ sunt, ita, ut filius, patri palam refractarius, & rebellis, cum eo armis decertare non dubitaverit; sed enim devictus in Kermaniam se recipere Tahero in provinciam istam adveniente, nonnulli, Deilemidarum partibus magis addicti, apud Abu Musa, quem Behaeddewlet, filius Æzadeddewlet, Deilemida, provinciæ rectorem constituit, contendebant, Taherum omni nunc potestate spoliatum esse, opportunissimum proin adesse tempus, eundem repellendi, priusquam viribus denuo invalescat. Verum Abu Musa, horum verba nil penfi habens, commodam hanc occasionem negligebat. Hinc Taherus, impune magnam hominum copiam sub sua figna convocans, comparato novo exercitu, in Kuhestaniam primum descendit, ubi, ut votis suorum satisfaceret, ad bellum omnia comparabat; confecto etiam numeroso equite,

exerci-

water filtra trains

exercitum urbem Hürfet versus deduxit, id agens, ut reliquam etiam Kermaniæ partem in suam potestatem redigeret. Inde commotus denique Abu Musa, non exiguum Deilemidarum numerum Tahero obviam duxit; at commifso prælio vertenda Deilemidis suere terga, occupata interea a Tabero, omni Kermaniæ provincia. His acceptis Bebaeddewlet, quo rem in integrum restitueret, Ustad Hermuzum ad id impediendum constituit; eo igitur iter illuc tenente, Taberus, (neque enim ad arma deventum erat) provincia decedens, in Sistaniam se suga subtraxit; ad cujus ubi confinia pervenerat, nobiliores e Deilemidarum familia, quos fecum captivos duxerat, in concione admonet, fibi præsto esse velint, quo patrem Chalefum e Sistania depellere queat; se postmodum ultro ipsis concessurum, ut in patriam redeant. His dictis obsequentes, quin strenuos adeo Deilemidas in prælio expertus est Taherus, ut Chalefus pugna cedere, atque intra muros munimenti cujusdam se recipere compelleretur. Neque profuerat, quod Chalefus clam viros expedierit, qui suos invitarent, ad priorem ut dominum redirent; siquidem Taherus populum omni studio colebat, sibique propensum reddebat. Ad technas igitur conversus Chalefus, renunciari Tahero curat, sibi, præter ipfum, nullum jam fuperesse filium, omnino se proinde metuere, ne, dum ipse periret, in exterorum manus opes incidant; quare, si clanculum secum convenire vellet, omnia se se ipsi indicaturum. Taherus, nil mali parentis dictis subesse suspicans, consensit denique, se se præscripto certo tempore sub arcis moenibus adesse velle; Chalefus igitur, viris ad infidias locatis, atque, ubi Taberus se condicta f 3 hora

hora ad arcem sistit, ex hac progressus, filium complexu stringit, lacrimasque prosundere incipit; eodem vero tempore constituti, e latebris prorumpentes, in *Taherum* irruunt, eundemque, ut justi erant, catenis onerant; quo sacto ipse pater enecans filium, ejusdem exanime corpus lavat, & serali amiculo circumdat.

Paulo alia ratione hic ipse casus refertur in translatione historiæ, a Jeminio conscriptæ. Commemorat nimirum laudatus historiographus, eo tempore, quo Sultanus Mahmudus ex India revertebatur, Chalefum principem sui loco ad avitum regni thronum evexisse filium, Ahmed Taherum, clavibusque thesauri traditis, omnis imperii sui gubernacula in eum transfulisse, ac demum, ut orationi vacare posset, in solitudinem se se recepisse, eorum veniam a Deo exoratum,

quæ regni sui tempore minus recte egisset.

Utebatur aliquantum hac nova vivendi ratione, dum denique abdicati imperii pœnitentia ductus, hanc machinam comparabat: ægrotum nimirum se simulans, filium, quasi consilia ipsi quædam suggesturus, ad se clanculum evocarat, quosdam simul, sibi sidos, in latebris recondens, qui, Tahero adveniente, cum mulieres lugubrem clamorem penes lectum edunt, ipseque filius pulvinari patris propius adhæret, specie mulierum erumpentes, eundem, prehensum, & bene constrictum, in soveam demisere, atque post dies aliquot, exanimi corpore extracto, rumorem in publicum sparsere, ex mærore se ipsum interemisse.

Verum Taherus, filius Zeinebi, aliique tum principes, tum nobiliores viri, qui spectaculo huic præsentes aderant, omnem animum a Chalefo avertebant, seque invicem ad odium excitantes, palam Chalefo refractarios se se ostentare minime dubitarunt. Hinc, licet is interea temporis regimine iterum potiretur, tam in publicis precibus, ubi principis nomen commemorari solet, quam in moneta Sultani Mahmudi, e samilia Gaznevidarum, principis nomine utebantur; suæ quoque submissionis testes literas ad Sultanum misere, quibus, quæ evenere, omnia exponebant, intensis id precibus flagitantes, sua ipse signa eo convertere ne gravaretur.

Sultanus Mahmudus illorum petitioni benigne annuens,

quæ a Chalefo patrata erant, indigno animo ferebat.

Interea Chalefus in Tak arce confidebat, septem munimentis circumsepta, quorum quodvis altitudine sua ipsum prope cœlum æquabat, ampla insuper fossa, undique circumducta, eandem firmabat. Hic igitur & Suitanus Mahmudus, cum suis considens, castra primum admoveri, tum maxima, qua fieri poterat, celeritate, arborum frusta una die congeri, hisque, ac terra fimul fossam repleri jubet, ita, ut equestribus quidem, ac pedestribus copiis accessus facilis esset. Sultani deinde elephantes admoti destruendæ arci operam impendebant. qui jam antehac a Chalefo defecere, ad liberandam arcem, melioribus, qua poterant, viribus adniti destitere. Elephantum maximus, machinis in altum actus, in ipfam arcem immittebatur, ubi magnam virorum, qui Chalefo adstitere, copiam cædebat, in interiorem arcem se præcipitantibus reliquis, atque, arreptis armis, vi oblistere conantibus. Hæc inter Chalefus, ut novum hoc facinus videret, e suo loco eo versus se movens, non sine stupore mirabatur, superficiem terræ ob horrenda hominum, dæmonumque spec-

tra fluctuum instar se se agitare; ipsumque elephantem, se coram, virum cum equo tantundem proboscide sua in altum egisse, quantum duplex spiculi jactus efficit, in terram deinde relapsum, compressis dentibus, in duas scidisse partes, atque a se denique projecisse. Chalefus hoc spectaculo perculfus adeo, ut pene spiritum redderet, ad deditionem, petendamque veniam se convertit. Mahmudus, propensissimo ad clementiam animo præditus, Chalefo veniam ultro concessit, ab ulteriori etiam vindicta se abstinens. Chalefus igitur paratis, quam licuit, pretiofissimis donis, in terram coram Jemineddewlet se prosternens, eum Sultanum compellabat, qui titulus Mahmudo longe gratissimus accidit; cum igitur, inclinato in terram capite, Chalefus se sisteret, tantam gemmarum copiam coram Jemineddewlet depromsit, ut ab harum splendore sol ipse multiplicatis radiis majorem a se sulgorem spargere videretur, moveretque principem, ut leviori negotio fibi veniam concederet. Sultanus etiam in exhibendo Chalefo honore nil prætermifit; eumque a terra attollens, omnia fe ipsi facile condonasse affirmabat, quin suis etiam in mandatis dabat, ut opes, & quidquid alimentorum in arce superesset, in eum transferrent locum, quem Chalefus ipse indicaturus esset. Optio insuper illi data, ut, ubicunque locorum in Sultani ditionibus vellet, confideat, & pro libitu suo reliquos vitæ dies transigat. Hic itaque ob aeris temperiem locum, Giuzgianan dictum, fibi delegerat, hinc Mahmudus, honore, & benevolentia affectum Chalefum, in eundem abs se locum dimisit. Quatuor annorum spatio tranquille hic loci dies suos egit; verum, quod postea innoresceret, ipsi literarum commercium cum Ilek Chano intercedere

cedere, e re fore, Sultano Mahmudo videbatur, ut in aliquam regni sui arcem ipsum transferret, quo in loco denique permansit, dum sinem vivendi faceret. Sultanus post hæc præceperat, ut relictæ possessiones filio ipsus Abu Hasizio traderentur.


and this seem


Ab auctore chronici, quod versio Jeminii inscribitur, Emir Chalefus ex maximis sui temporis regibus suisse perhibetur, qui a liberalitate, benignitate, & præstantibus animi dotibus cumprimis celebris, maximas etiam pecuniarum fummas in viros do-Etos, eosque, in quibus vitæ probitas laudabatur, profuderit. Poetæ pluribus eum epicediis, encomiisque celebrabant, omnium ore decantatis. Idem præcipue viros, sui temporis doctissimos, præstantissimosque convocabat, qui edendo Alcorani textui operam impenderent; huic editioni variæ fimul commentatorum sententiæ, & variantes lectiones jungebantur, additis ubique tam antiquorum, quam posteriorum doctorum explanationibus, anomaliis itidem a grammatices regulis, diversisque phrasium conjunctionibus, quibus, ad consolidandam exactiorem explicationem, exempla, differentes versus, et traditiones subjiciebantur. Opus isthoc ut ad finem perduceretur, viginti aureorum millia constituit, eos remuneraturus, qui in hac editione operam suam locaturi essent.

Vastum hoc opus in gymnasio Sabunensi, quod in urbe Nischabur extitit, ad annum quingentesimum, & qua- H. 545. dragesimum quintum servabatur; nunc temporis integrum, incep. 29. & completum in urbe Ispahan locum obtinet, in collectione Apr. A. C. librorum samiliæ Chagiendianæ, quam Deus sospitem præstet. Hic pauper hujus operis editor, Abu Escheref Nasib, eo, quo a patria absens Ispahani morabatur, tempore, singulari

gulari benevolentia occasionem nactus est, commentarios istos pervolvendi, & aliquid inde luminis percipiendi. Ii vero centum constant voluminibus, ita, ut integrum quis vitæ tempus iis describendis insumeret, neque aliquis inde, multorum nisi annorum decursu, usus haberi queat. Sunt autem verba ista interpretis præsati chronici Jeminii, quibus de Chaleso, filio Abmedis, agit.









Historia priorum regum Persarum, aut juxta textum orientalem שנו בין selātīni Irān, i. e. regum Iraniæ.

egio Iran, nobis sub Persidis nomine notion, eum continet terræ tractum, qui, ab Oxo slumine ad sinum Persicum, & Euphratem protensus, Indo slumine ortum versus clauditur. Hanc ab Ireg, filio Feriduni, mutuatam esse nomen, cujus fratri زوران Tūrān pars ea Transoxana, quæ ultra Oxum a mari Caspio in orientem patet, patrimonio obtigit, in illa de Fatis LL. OO. commentatione pag. 47. innui. abs re itaque fuerit, quæ historiographus Mohammedes Emir Chond parte prima historiæ suæ universalis de hac partitione nominatim commemorat, paucis hoc loco subjicere: tres hic Feriduno filios, quos inter fua regna diviferat, hifce verbis adferibit: مربع مسکونرا بسه قسم منقسم کردانید نواحیء روم و دیار مغرب و مهلکت فرنگ با عال و مضافات آن بسلم مسلم داشت و بلاد چین و ماچین بلکه تامت ترکستان زمین را بتور داد و ایراندا که عبارت از کنار آب فراتست تا شط جمحون و وسط معموره و خوشترین و بهترین مواضع quatuor mundi عرضه عيتي و واسطه عقد دنياست نامزد ايرج فرمود plagas in tres partes divisit; tractum Romeorum (regionum, quas subin Graci possedere) cum Africa, & Italia parte, huicque subjectis provinciis, & territoriis, ad eam pertinentibus, filio suo Selem tradig 3

tradidit. Vastum Chinæ regnum, quin & Turkistaniam integram confignavit filiorum alteri, Turan dicto. Iraniam denique, quæ ad Oxum usque protensa, extrema sui parte ab Euphrate fluvio alluitur, regionem sane optime cultam, portionem totius orbis prastantissimam, medium mundi punctum occupantem, Ireg, filio suo, in patrimonium largitus est. Et vero majori hunc præ duobus reliquis benevolentia profequebatur; ii enim a filia Zohak progeniti, ferocitate, pravisque moribus avo extitere quam fimillimi, hic contra, ut از ایران دخت که یکی از مخدرات و عظمای ,verba auctoris edocent فرس بود در وجود آمد و جون شاهزاده از قید مهد رهای یافت و از منزل طفوليّت رحت برتبه عصبيّت كشيد محاسن اهل تيز از شايل او ظهور یافت و بآموختن علوم و تیر انداختن و تعلیم آداب فروسیت اشتغال نوده باندی زمانی در آن صفت استادی حاذف و کامل کشت و از اختلاط با خداوندان عقل و كال بنصيبي وافر محتظي وبهرهمند آمد ex Iranducht, primarum, honestissimarumque Persia siliarum una, in mundum editus, ubi exemtus cunis, transactisque infantiæ annis maturiorem ætatem attigerat, præstantia perspicacis ingenii specimina edidit; scientiarum studiis, arti jaculandi tela, & disciplinæ morum se se totum applicans, optimumque ex sapientum, proborumque virorum consortio fructum capiens.

Interea Iraniæ nomen, utpote antiquius, minus recte apud Orientales Persiæ tribuitur, communioribus hodiedum aut مالک فرس memāliki fars i.e. regionum Fars, aut مالک فرس memāliki ågem i.e. regionum ağem vocabulis infignitæ; quorum primum vel in subsequente, quam, cum particulis aliis in latinum versam, cl. Uri anno 1771. Oxonii edidit, narratione Persica occurrit: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله عبد كه در خزانه علوك فرس بود ديدم كه ملوك فرس المعادلة عبد الله بن الله الله بن الله بن

etiam پارس pārs scribitur, animadvertente cl. Hyde in hist. rel. vet. Perf. p. 427. minime totum in Ulughbegii, & Nassireddini tabulis imperium Persicum nomine isto complectitur, quin neque dimidiam ejus partem, fed certam folummodo regionis portionem, quæ Persepolim cum Schiraz, & Ispahan &c. in se continet. Ast Ibni Fachriddin totum ابران Irān, seu Persiæ regnum ab Oxo ad Euphratem, & a باب آلابواب bābülēbwāb ad mare متان Ommān olim Fars, vel Pars fuisse dictum, multasque alias, procedente tempore, Perfiæ tandem adjunctas esse provincias, commemorat, in quibus & خالسان Chorāsān fuerit, antiquo Perfarum idiomate orientem fignificans; ideoque fic dicta, quod urbi istachar, feu Persepoli contra orientem sit. Quod ad vocabulum or agem attinet, id, ex lingua Arabica ortum, fignificat: barbarus, qui barbare, i. e. non Arabice locutus fuit. Ut nempe Romani exteras nationes barbaras dicere consuevere, eadem plane ratione, eodemque senfu & pro Persis designandis hæc vox quam maxime adhibita, ipsos etiam inter Persidis incolas jus civitatis obtinuit; ita, ut ad hodiernam diem orientis geographi binas illas provincias ofe grāk di-پُرتَهُ وَ وَمَا عُرِيمًا عَلَمَ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِ sah name, i.e. liber regum, dicto, inter alia canit:

کجا آن فریدون ضحای وجم ششاهان عرب و خسروان عجمه هه خای دارند بالین خشت شخنای آنکه جز تخم نیکی نکشت

Ubi sunt ille Feridunus, Zohakus, Giemschidius? Reges Arabiæ, & monarchæ Persiæ! Omnibus nunc terra est durum pulvinar.

Quam bene illi! qui nil nisi bonum semen sparsit.

Sunt & alia ceterum, licet rarius adhiberi solita, Persia nomina, ut sāhistān, i.e. ditio Schah, seu regis; illius scilicet, cujus Schah titulus est, dominio subjacens. Item stāgīk, ubi rex coronam gerit, tāg dictam. Sed de his, aliisque pluribus consule cl. Hyde in hist. rel. vet. Pers. cap. 35. De singulis vero, in quas Persia dividitur, provinciis commodior paulo inferius erit dicendi locus; subjecta itidem huic operi tabula, commodius, qui regni ipsius, & cujusque provinciæ sint limites, illustrabit.

AD

TO:

## AD DYNASTIAM TAHERIDARUM.

Pag. 1. lin. Taherus Zuüljeminein sibi, successoribusque suis supremum imperium vendicat.

aheri foboles, primam a confirmato in Perside Islamismo dynastiam constituens, Tahero, celebri, ut historia refert, Mamuni Chalifæ duci originem suam debet. Quinque hac ex familia principes summo cum imperio jura dedere Persiæ; ceteris quoque ejusdem stirpis hominibus maximo semper in honore apud Chalifas habitis. Hujus generis seriem pro illustranda historia a capite arcesfere, atque in adjecta descriptione persequi placuit.

Moafab Hozai.

Hufeinus.
m. a. h. 199.

I.

Taherus.

Chorofanæ gubernandæ præficitur

a. h. 205. m. a. h. 207.

Talcha
Adipifcitur Chorofanæ principatum
a. h. 209. m. a. h. 213.

Ali Substitutionis jure patris successor, haud multo post vita a seditiosis exuitur. Abdullahus
Chorosanam gubernandam
suscipit a. h. 214. m. a. h.
230.

Mohammedes.

A Mutewekilio exercitui præfectus, fimul Chalifæ in terris Moslemicis vicarius constituitur, atque a Moslemio, Iraeæ, & duarum sacrarum Arabiæ urbium princeps renuntiatur. mor. a, h. 253.

Taherus

Chorofanæ gubernium adit a. h. 230. m. a. h. 248. Suleimanus
A Mohammede nepote Tabaristana præfectus, tum
pugna ab Hasano victus,
a Mostaino dux exercitus
creatur. m. a. h. 253.

Mohammedes Regendæ Chorosanæ præficitur a. h. 248. capitur a Jacubo Leisto a. h. 259.

Sunt

Sunt quidem, qui Taheridas regibus minime accenfeant, resque ipsorum gestas in Abbasidarum historia referant; verum hos haud recte ista afferere, vel ex eo patet, quod huic familiæ, cui quinquaginta omnino, & fex annis fumma in administrandis Chorofanæ rebus potestas erat, a Tahero ambidextro, patre suo, ac capite nomen trahere licuerit, ut ex his verbis Emir Jahjai, qui celebrem historiæ Persicæ epitomen reliquit, intelligitur: بعضى مؤرخان این طایغه را در اعداد سلاطین نیآورده اند و اخبار ایشان در ضبن احوال بني عبّاس ذكر كرده اند امّا چون طاهر ذو اليمنين مقدم این طایغه است که حکومت خراسان پنجاه و شش سال در دست داشت Nonnulli historiographi hanc gentem regum familiis non adnumerant, & ipsorum notitiam Abbasidarum gestis inserunt; quoniam autem Taherus ambidexter primus hujus familiæ est, quæ in Chorosana per quinquaginta sex annos regnavit, ab eo omnis gens hac nomen accepit. Qui Taheridas regum familiis non adnumerant, cumprimis funt historiographi Arabes: ut Abulfeda, Abulfaragius, & Elmacinus. Scriptores contra Persidis ab hac familia regum feriem ordiuntur, qui post stabilitum Islamismum summo cum imperio regebant,

## Taberus, filius Husein.

Pag. 1. lin.

Luseinum, patrem Taheri, anno supra centesimum nonagesimo nono, & in Chorosana quidem, vita excessse, in sua historia Abulfeda commemorat; unde missise dicitur Mamunus, qui de patris morte lugenti Tahero consolationem suo nomine adserrent.

Interfecto Mohammed Emino, sexto Abbasidarum Chalifa. Pag. 1. lin. 4. & seq.

Emini cædes qua de caussa, quoque modo sacta sit, paucis hic expediendum. Eminus rescissa Raschidii pactione, qua Mamunum in Chalisatu succedere oportebat, proprioque silio Musa, in sæderis societatem accito, adversus Mamunum exercitum ducebat; veris societatem accito, adversus Mamunum exercitum ducebat; veri

h

rum exercitu ipsius insigni clade a Tahero, selicissimo Mamuni duce, adsecto, Eminus ipse gravissima Bagdadi obsidione premi cœptus; dum præcipiti inde suga se se proripiens, retractus in carcerem, oppressisque, Taheri justu, saucibus, e vivis sublatus est. Hæc cædes ad annum centesimum octavum ab historicis passim refertur. Mirchondius in tomo tertio, quo Chalifarum historiam complexus est, eandem primis diebus lunæ Muharrem hujus anni hegiræ evenisse, narrat; quod tempus nostra computatione primis diebus septem-

bris anni Christi ostingentesimi decimi tertii respondet.

Pag. 1. lin. Successorem, fratremque ejus Mamunum, ex Chorosanæ provincia Bagdadum concedentem, secutus.

Mamunus, provinciis omnibus ab Hamadana ad ultimum orientem, a patre Harunirraschid sibi concessis, potitus, tanto earum tenebatur amore, ut Chalisa etiam, sublato fratre, renuntiatus, non nisi quatuor post annis, Bagdadum, avitam Chalisarum sedem, Chorosana relicta, petierit; idque, ut Elmacinus ad annum ducentessimum,

## Bagdadum concedentem fecutus.

Pag. 1. lin. 6. & feq.

agdad, metropolis Yrakæ Babylonicæ sub gradu longitudinis 80, in quo consentiunt Nassireddinus, & Ulughbegius, latitudinis vero secundum Nassireddinum 21, at secundum Ulughbegium, aliosque astronomos, testante id Golio in notis ad Alfraganium, 25 sita, a suvio Tigri secatur media. Haği Chalfe in descriptione hujus urbis, eam insignis magnitudinis esse, perhibet, quam cum centum, & sexaginta tribus turribus murus cingat, cujusque peripheria 12400 cubitos essiciat: يوز التهش اوج درو اون ايكي يبك دورتبوز ذراعدر ampla itidem compita, pluresque in ea visuntur majores areæ, arx denique interior Bagdadum mirum quantum exornat, tueturque.

Urbem istam cum veteri Chaldæorum metropoli, Babylone, male confundi, vel eo in notis ad Alfraganium comprobat Golius, quod æque Euphrates Babylonem, atque Tigris hodie Bagdadum bifariam dividat. Secundum hanc itaque præposteram traditionem, & Zohakus, primæ ex antiquissimis Persarum dynastiis princeps, urbis hujus sundamenta jecisse, & Kaikausus magorum eandem sanis, atque aliis insuper ædificiis exornasse, dicitur. Verum Mansu-

rum Chalifam ejusdem conditorem fuiffe, cumprimis ex Elmacino patet, qui rem ita narrat: في سنة خس و اربعين و ماية شرع آلنصور على اختياره و قيل في سنة خس و اربعين و ماية شرع آلنصور على اختياره و قيل اختياره و قيل المنجبون على اختياره و قيل النها على الختياره و قيل النها كانت مرجة خضري فيها صومعه راهب اسمه بغداد و سميت باسم النها كانت مرجة خضري فيها صومعه راهب اسمه بغداد و سميت باسم النها ها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر آلخلفا التعاسيين الخلفا و سماها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر الخلفا و منافئة و منافئة و سماها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر الخلفا و منافئة و سماها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر الخلفا و سماها ألنافئة و سماها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر النها و سماها ألنافئة و سماها آلنصور مدينة آلسلام ولما بناوها صارت مستقر النها و سماها ألنافئة و سما

Urbs ista, si duos, tresve demas, omnium omnino in Chalifatu successorum sedes erat usque ad annum hegiræ sexcentesimum quinquagesimum sextum, quo eandem Holagu ceperat, Chalifarum regimini sinem adserens. Variis exinde jam Tatarorum, jam Persarum principibus erat subdita, quoad anno hegiræ millesimo quadragesimo octavo una cum tractibus adjacentibus a Sultano Murado erepta Persis, provinciis Turcicis aggregaretur. Hodiedum a Passa gubernatur, in viginti numero Beglik divisa; juxta tabulam redituum imperii Ottomanici, a Marsilio exhibitam 73020 piastros annuos pendit, & 1770 militibus alimenta præbet. A Persis postmodum variis modis lacessita, vix quatuor abhinc annis, jam propius admoto Persarum exercitu, in novum discrimen adducebatur, quo tamen, e vivis repente sublato زند كريم خان Zend kerīm chān, horum principe, denuo liberata est.

Quod ad alia urbis hujus nomina attinet, ea varia recensentur; ut مدينة السلام medīnetus-selam i. e. civitas pacis, seu incolumitatis; مدينة النصور medīnetus-mansur i. e. urbs Mansuri, a suo conditore sic dicta; demum etiam, quod exteriores urbis portæ interioribus nequaquam responderent, ازورا zewrā i. e. obliqua vocabatur. Unde celebris poeta Tograi in carmine, Lamie dicto,

ita canit:

فيم الاقامة بالرورآء الاسكني الله بها والا ناقني فيها والا جملي Cur

Cur maneam Zawræ (i. e. Bagdadi) non est habitaculum meum In ea neque camela mea, neque camelus meus.

Taherus — Mamunum ex Chorosanæ provincia Bagdadum con-Pag. 1. lin. cedentem secutus, eos inter, qui individui comites principi adhacrebant, usque eo familiaritate illius utebatur.

Ingentem nominis celebritatem consecutus Taherus, prima illa potissimum in Eminum expeditione, ad annum centesimum nonagesimum quintum a chronologis referri solita, Mamuni animum sibi conciliavit. Plena aleæ, ac cum præsentissimo discrimine conjuncta res erat. Emini ducem, Alin cum quinquaginta omnino militum millibus, ad præsium expeditis, obviam nactus, viribus licet ipse longe inferior, (nam quatuor nonnisi millia numerabat) congredi tamen cum hoste non dubitabat, editaque ingenti strage, & ipsius adeo belli ducis Ali capite potitus, victor redibat. Variis dein provinciis a Mamuno præsse jussus, Yrakam primum, sussectioque ejus in locum anno centesimo nonagesimo octavo Hasano, silio Saheli, Mesopotamiam, Tsuguram, & Syriam, teste Elmacino administrabat; Ceterum, ut superius relatum est, Chalisæ ex Chorosana in Babyloniam transitus, ipso Tahero comitante, in annum ducentesimum, & secundum incidit.

Pag. 1. lin. Durn die quadam Mamunum adiens, compotationibus indulgentem conspexisset.

Virum profecto videtur, quod, cum a Moslemicæ legis auctore omni vini usu tam severe interdictum sit, ut suræ secundæ versu 219: يُسَلُّونكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وُ ٱلْمُيسِرِ قُلْ فِيهِمَا أَثْمُ كُبِيرٌ وُ مِنَافِعُ لِلتَّاسِ وُ إِثْمَهُمَا Interrogabunt te de vino, & alea, responde: in utroque est peccatum grave, & utilitates hominibus: sed peccatum utriusque majus est, quam utilitas utriusque. Itemque, & multo quidem gravius sura يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمْنُوا إِنَّمَا ٱلْحَمْرُ و ٱلْمَيْسِرُ و ٱلَّا نَصَابُ : quinta, versu 99 : وُ ٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِنْ عُلِ ٱلشِّيطانِ فُاتَّجْنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ O qui crediderunt: certe vinum, & alea, & statuæ & Sagittæ sunt abominatio ex opere Satana: itaque devitate illud, ut vos felices sitis. Quod inquam, ipfe Chalifa, امير آلومنين emirül - mueminin i. e. credentium princeps omnium confensu habitus, intemperantissimis tamen perpotationibus ita indulferit, ut fuæ ipfius gentis historiographi rem pervulgatam taciti haud præterirent. Ast annales Chalifarum penitius perscrutantes, nil turpe ab hisce religionis suæ defensoribus alienum suisse deprehendemus. nus, ut, missis ceteris, vel unius meminerimus, ad annum ducentesimum septuagesimum nonum de Mutamido dicit : سيرته كان خُليعاً للهو و ٱلطرب مقبلا على ٱللذّات اشتغل بذلك عن تدبير رعاياه و النظر في امر علكته , quo ad naturam gluto fuit, amans lusum , & hilaritatem, ita voluptatibus deditus, & studens, ut subditorum suorum gubernationem, & negotiorum regni sui inspectionem negligeret. De Mutewekilio memoriæ prodidit Abulfeda, ipsum ducentesimo, & quadragesimo septimo anno, dum solus ageret, eo in stragulo, in quo cum amicis compotationes celebrare confueverat, quorumdam gladiis confossum, interiisse.

Cui princeps mox vini pocula quæpiam ab Huseino eunucho Pag. i. lin. præberi jussit.

Ministeriis domesticis eunuchos adhibere, jam antiquissimis temporibus solenne Persis suerat; id, quod cumprimis ex Xenophonte patet, qui libro septimo Cyrop: ἀξξαμενος ait ἀπο των Θυζωζων παντας τες πεζι το έαυτε σωμα θεραπευτηςας εποιησα τες έυνεχες ab janitoribus facto initio, omnibus, quibus corporis sui curam mandabat, eunuchos delegit. Ea porro inter ossicia, queis eunuchi iis temporibus sungerentur, hoc quoque referebatur, principi nempe, hujusque convivis pocula ministrare, de quo itidem ex Xenophontis Cyrop. libr. primi cap. tertio edocemur, ubi Astyages adhucdum juveni Cyro objicit, quod, ubi ossiciales singulos aulæ suæ quodam favoris signo cohonestasset, solius pincernæ oblitus sit, qui yenuste adeo pateras circumferre nosset.

In istum Xenophontis locum incidenti, & id animadvertisse placuit, eundem hunc pincernam a Xenophonte Sanas compellari, viderique, ab auctore nomen isthoc, ut nomen proprium illi tribui, vel, ut aliis placet, nomen esse gentile, quoniam, sicut Herodotus libro octavo testatur, ita Scythæ a Persis compellati suere; sed quid? si & tum jam ossicii id nomen suerit? dubium sane hoc videtur, eoque magis, quod & hodie vox ista (quamquam & Arabicam illi derivationem tribui non ignorem) a poetis passim pro pocillatore usurpetur, ut in nota illa Hafyzii oda palam sit, quæ incipit:

ساقی بنور باده برافروز جام ما الله مطرب بکو که کار جهان شد بکام ما quod Lib. Baro Revizkyus in suo de Hafyzio opusculo ita vertit:

O pocillator! fulgore meri coruscum fac poculum meum, O psaltes! canta, quia res mundi ad mea vota cedunt.

Et in altera itidem, cujus hoc initium:

ساقی بیار باده که آمد زمان گل 🐉 تا بشکنیم توبه دکر درمیان گل

Affer pincerna vinum, quoniam venit tempus rosarum,
Ut violemus pænitentiæ vota iterum inter rosas.

Pag. 1. lin.

## O princeps credentium!

itulum istum Mohammedis in Chalifatu successoribus communem fuisse, & hodiedum Constantinopoleos Sultanos eodem com. pellari, etsi notum jam plerisque omnibus sit, minime tamen abs re fuerit, compellationis hujus originem huc loci transscribere, quam Patricides in historia sua ecclesiastica pag. 294. his ver-و الغيرة هو اوّل من سماعر بن الخطاب امير المومنين: bis exhibet لأن التاس كانوا بعد موت محمد يسموا ابو بكر خليفة رسول الله و اذا كتبوا اليه عاله كتبوا الى خليفة خليفة رسول الله من فلان ولا ولى عربن "الخطاب كانوا يسمونه خليفة رسول "الله و كانوا عاله يكتبوا اليه الى خليفة خليفة رسول ٱلله من فلان ولما ولي عر بن ٱلخطاب المغيرة ابن شعبة على البعرة كتب اليه لعبد الله عربن الخطاب امير الومنين فسمي عربن ٱلخطاب امير آلمومنين فن ذلك آلوقت يسميوا آلخلفاء امرا آلمومنين Moghaira autem fuit primus, qui Omarum, filium Chitab, nomine princeps credentium compellavit; nam homines post mortem Mohammedis Abu Begrum nominarunt Chalifam, seu successorem legati Dei, & quoties cunque præfecti ejus illi literas exararunt, his infcripfere: Chalifa seu successori legati Dei a N; succedente autem Omaro, filio Chitabi, eundem successorem successoris legati Dei nuncuparunt; & scripsere præfecti ejus: Ad successorem successoris legati Dei a N. Dum vero præfecisset Omar, filius Chitab, Moghairam, filium Schaabet, Bafforæ, hic ita ad literas inscripsit: Servo Dei, Omaro, filio Chitab, principi credentium; igitur vocatus est Omar, filius Chitab, princeps credentium, & ab illo tempore Chalifa vocati funt Umra-ul muminime, seu principes credentium. Quem titulum Genebrardus, & post hunc alii quoque in Miramolinus ridicule transmutarunt.

Fag. 2. lin. 26. & feq.

Ad Vezirium Ahmed, Abu Chalid, adibat.

ezirii, vel si malis, Consiliarii, juxta Erpenii versionem, munere sungebatur Ahmed, Abu Chalid; succedebat Fazlo, silio Sahili,

hili, anno hegira ducentesimo secundo e medio, Chalisæ justu, sublato; fratri item hujus Hasano, qui sequenti mox anno, a quo id muneris adiit, rursus amotus est, propterea, quod, teste Abulseda, tam atrociter in illum atra bilis desæviret, ut catenis, mentis impos, constringendus, & custodia continendus esset. Vezirio porro illi lusci nomen fuisse, sequentia Elmacini verba manifestum faciunt: را له بعد الفضل بن سهل الخاه شم الحد بن ابي خالد الله ولا المناف ا

## Eique Tatarorum imminere exercitum.

Pag. S. lin.

A atari, aut, ut pro varietate in aliis manuscriptis codicibus usurpatum observavi, Turca, Tatarorum propago, Caucasi, & maris Caspii loca vasta, & inculta inhabitantes, atque nullo non tempore a nimio terras novas occupandi studio in historiis orientalibus noti, jam inde ab antiquissimis temporibus infesti Persis extitere: fic افراسب afrāsabum, de gente ista fuisse, historici orientales perhibent, qui, cum wie menucehrum, regem Persia, bello peteret, devictus, pedem referre cogebatur, constituto etiam a Menućehro, quo pax firma effet, Turcas inter, atque Persas termino, Oxo flumine. Jam post propagatam Moslemorum legem gravius & in ipfum etiam Chalifarum imperium vires fuas exerebant; fiquidem anno hegiræ octogesimo secundo Abdurrahmanus, filius Mohammedis, filii Asab, Kendaus, conquestus de Hagiago suisse, perhibetur, quasi id unum intenderet, ut a Turois superarentur. Itaque, con-فاتفقوا على خلعه و بايعوا عبد آلةِ حن بن محمّد tinuat auctor nofter -una فصالح عبد الرّحين ملك الترك وعاد الي العراف بحرب الحجاج nimiter deponunt (Hægiagum,) & juramentum fidelitatis præstant Abdurrahmano, filio Mohammedis, qui, pace cum Turcarum rege fačta, reversus est in Yrakam, bellum gesturus cum Hagiago.

Et vero haud vanam Abu Chalidi, supra saudati Vezirii de reprimenda Turcarum potentia, iisque a confinibus Chorosanæ arcendis solicitudinem suisse, sequentia tempora docuere, queis Turcæ in ipsa adeo Chalifatus successione turbas sæpe numero excitarunt. Iidem enim, ut cetera præteream, Mutazzo billah, Chalifa salutato, mox Mucjedum, fratrem ipsius, e carcere eductum, renuntiare principem attentabant; iidem etiam anno hegiræ ducentesimo quinquagesimo sexto Chalisæ Muhtadi billah se opponebant adeo, ut neque Corani, quem sinu suo Chalisa gestabat, reverentia moti, eundem Chalisatui renuntiare compulerint. Ceterum Turcorum hoc genus cum Osmanidarum stirpe, Constantinopolim hodiedum summo cum imperio obtinente, nullo pacto consundendum esse, jam in commentatione de fatis LL. OO. S. X. pag. 64. Geq. pluribus comprobatum est.

Pag. 5. lin. Ghasanum, buic provinciæ præsectum, nequaquam eidem strenue desendendæ sussicere.

Thasan præsectus Chorosanæ anno hegiræ ducentesimo secundo renuntiatus est, quo Mamuno, ob Ibrahimum, in Babylonia a militibus Chalisam creatum, e Chorosana in Babyloniam concedendum suit.

Pag. 5. lin. 18. & seq. Taberus igitur in Chorosanam iter agressus.

المنازة التي بينها و بلاد الجبل وجر جان و يحيط بها من جهة الغرب الغازة التي بينها و بلاد الجبل وجر جان و يحيط بها من جهة الغرب الغازة فاصلة بينها و بين فارس و قومس و يحيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشرف نواحي سجستان و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا المنازة فاصلة بينها و بلاد الهند و تخيط بها من الشمال بلاد ماورا الشمال بلاد ماورا الشمال بلاد ماورا الشمال بلاد ماورا المنازة فاصلة بينها و بلاد المنازة فاصلة بلاد ماورا المنازة فاصلة بينها و بلاد المنا

tes illi sunt partes Segestanæ. Denique ab austro eam terminat Trans-

oxana regio, & portio Turkestanæ.

Hic itaque terræ tractus, ut Golius in notis ad Alfraganium animadvertit, juxta Ptolomai descriptionem, antiquorum Parthiam, Ariam, Paropamisum, tum Margianam cum Bactriana continet. Si ipfius vocabuli خوراسان chorāfān etymon spectetur, id ex antiqua voce Perfica po chor, quod folem denotat, & ju san i. e. terræ tractus, componitur, ita, ut خوراسان chorāsān idem, ac regio meridionalis fignificet. Regio hæc, ut Hagi Chalfe in opere وسط اقايمده واقع اولمغله آب و هواسي : fuo geographico oftendit in tempera خوب خلقی معتدل آلهزاج عاقل و دانا و قوی و توانا اولور to climate sita, aqua, & aere salubri, incolis tum firmæ constitutionis, tum optimi ingenii, sagacibus denique, fortibus, & robusiis gaudet. Idem hic auctor præter majoris momenti urbes quingenta circiter oppida Chorosanam complecti afferit, & paulo infra etiam Hamdallahii testimonium adfert, qui antiquis temporibus Kuhestan, Mazanderan, & Kums adnumerata Chorofanæ fuiffe, eaque tempestate, qua Mogolenses rerum summa in Persia potiebantur, Chorosan, Kuhestan, Kums, itemque Mazanderan, & Tabaristan pro uno, eodemque regno habita fuisse, perhibet. Queis tamen paulo ante citatus auctor subjicit, Kums, Mazanderan, & Tabaristan separatas esse regiones, etsi فرستان kuhestan, quam Geographus Nubiensis fub climate quarto notatam, قوهسان kūhesān erronee fcribit, dicens: قوهسان المجاورة للمثارة الكبيرة kuhesan finitima deferto magno &c. a pluribus aliis, ipsoque etiam Hagi Chalfe in nominato opere geographico, Chorosana adjungatur.

Quadam die veneris Taherus suggestum in fano conscendens, Pag. 5. lin.
publicas preces recitare coeperat, atque, ubi mentio Chalifæ nominis facienda erat, verba isthæc sufficiebat.

Orientalibus orationes ista ada chutbe dicuntur, i. e. uti recte cl. Meninskius in suo thesauro LL. OO. innuit, oratio solennis, qua fieri solet a Musulmanis post precationem meridionalem seria sexta in majoribus fanis, ubi benedicitur Mohammedi, esusque familia,

î 2

ac regi, vel monarcha tunc regnanti. Erat hæc solennis sunctio, quam in suggestu, Herbelotio referente, Chalisa peragebant, veri utpote, & soli religionis Mohammedanica antistites, quave, eodem Herbelotio teste, sub principio iis solis reservata, ab omnibus omnino non interrupta serie usque ad tempora الراضي بالله ابو العبال المعالم والله ابو العبال المعالم المعا

Solennis hæc in precibus publicis commemoratio in aliis quoque majoribus fanis omnium ditionum Musulmanicarum pro regnante tantummodo Chalifa fieri confuevit, quoad in exteris provinciis Taherus consuetudinem istam primus infringeret; unde paulo post eo deventum est, ut in ipsa Chalifæ sede, quin, eo etiam annuente, folennes ista commemorationes pro aliis quoque haberen-Cujus rei exemplum illustre a superius jam laudato Chalifa Razi petere licet, de quo Abulfaragius ad annum hegiræ tercente-ألبجت ٱلصّرورة للوّاضي الى انّ : fimum vigefimum quartum hæc narrat قلد ابا بكر محمد بن رايف امارة الجيش وجعله امير الامرا وولاه الخراج و العاون و الدواوين في جميع البلاد وأمران كطب له على جميع المابر و بطلت الوزارة من ذلك الوقت فلم يكن الوزير ينظر في شيء من اللهور الها كان رايف وكاتبه يظنران في اللهور جميعا وكذلك كل من تولى امرة اللمرا بعده صارت اللموال تحمل الي خراينهم فيتصرفون بها Impulit nece Jitas Razium, ut كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون Abu Becrum Mohammedem, filium Rajeki, imperatorem exercitus crearet;

crearet; eum ergo imperatorem constituens, vectigalibus, & tributis, & curiis per omnes regiones præfecit, justique in omnibus suggestis nominis ejus in concionibus mentionem sieri, atque ab eo tempore irritum factum est Vezirii munus. Rajek siquidem, & illius scriba omnium rerum curam gerebant; codemque modo, quicunque post ipsos imperatores imperatorum siebant. Omnes pecuniæ in ipsorum gazophylacia importabantur, easque pro lubitu erogabant, & Chalifæ nihil aliud, quam quod ipsis visum, relinquebant.

Hinc facile conjiciendum, halucinari eos, qui Osmanidarum Chalifas de hac Chalifatus prærogativa, cujus haud interruptam, & inconcustam successionem sibi arrogant, nil quidquam remittere posse autumant, cujusmodi inter alia & illud est, ne suum in Crimea nomen in publicis precibus commemoretur.

## Atque peracta, mortuis fieri solita, lotione.

Pag. 6. line 3. & feq.

otio, mortuis fieri folita, ut cl. Relandus in tractatu de religione Mohammedanica annotat, inter lotiones necessarias غسل آلواجب ghuslul-wagib refertur, quarum secundum traditionem Persarum sex sunt numero, easque inter postrema, quæ mortui cadaver ante sepulturam lavari præcipit. Apud Mohammedanos lotio isthæc honoris caussa ab ipsis etiam viris principibus peragi solet, id, quod sequentia Abulfedæ verba in vita Mohammedis, ubi hujus sepultura describitur, liquido comprobant : وكان الذي تولى غسله على بن ابي طالب و العباس و الغضل وقتم ابنا العباس و اسامة بن زيد و شقران مولى رسول آلله فكان العباس و ابناه يقلبون واسامة بن زيد وشقران يصبان آلاة و على يغسله وعليه قبيصه و هو يقول بابي انت وامي طبت و مينا وام ير منه مايري من ميت Qui curarunt ablutionem ejus erant Ali, Abi Talebi filius, & Abbas cum duobus filiis suis Fasl, & Kosam: nec non Usama, filius Zeidi, & Schukran, apostoli Dei servus. Abbas, & duo filii ejus versabant illum. Usama, Zeidi filius, & Schukran aquam fundebant. Ali autem abluebat eum, adhuc camisia indutum. Dixit porro Ali: Tu mihi esto patris mei, i 3

& matris meæ loco, suavissimum spirans odorem vivus, & mortuus.

Neque vidit id, quod videri potest ex homine mortuo.

Similiter Chalefum, ex Soffaridarum prosapia, siliorum suorum, licet violenta eos morte e vita expulerit, ablutionem ipsummet curasse, ex hac ipsa Mirchondii historia discitur. Is denique, qui hic loci de istis disserendi occasionem præbuit, Kelsum, silius Sabit, id officii vivo sibi ipse præstare voluit, quod, de proxima nece minime dubitans, illotum cadaver sum permansurum metueret.

Pag. 6. lin. 3. & leq.

Fidei igitur confessionis dicta formula eo processi.

Pag. 6. lin. Fama est Taherum, qui & ambidexter audit, postquam ac. & seq. Mamuni nomen a publica oratione exclusisset.

Ab eo tempore, quo post eversum Jezdegirdi imperium, omnis, qua patet, Persia imperio Chalifarum subdita erat, Chorosanæ gunacula

Mamunus itaque, uti ex historia præsente patet, Chalifa factus, atque ob excitatas in Babylonia turbas Bagdadum transire compulsus, primum Chorosanæ moderatorem Ghasanum constituit, tum Taherum, qui inde ab eo tempore, quo, annuente Chalifa, Chorofanæ præfecturam adiit, omnem simul Chalifatus potestatem hic adeo labefactavit, ut hæc provincia proprios deinceps dominos femper haberet. Tahero, exercitui Mamuni adhucdum præfecto, supremum Chorosanæ imperium prædictum fuisse, Emir Jahjai in epitome fua his verbis contendit: آورده اند که وقتی که مأمون طاهر ذو آلے منین را بجنک علی بن عیسی که از جانب محمد آمین می آید فرستاد فضل بن سهل كه وزير مأمون و منجم بي نظير بود اورا بطريقي خجسته روان کرد و کفت لواي تو بطالعي بسته ام که قريب شصت سال هیچکس آنرا تنواند کشود و چنین بود ازین وقت تازمان آل بنی لیث صغار پنجاه و شش سال حکومت خراسان در دست طاهریان بود Narrant eo tempore, quo Mamunus Taherum ambidextrum miserat, ad debellandum Alium, filium Aifa, qui ex parte Mohammed Emini cum exercitu appropinguabat, Fazlum, filium Soheil, Vezirium MamuMamuni, celebremque astrologum bono cum omine hunc ducem expedivisse, illique prædixisse, quod cum vexillo ejus tam bonum conjunxerit horoscopium, ut ad sexaginta circiter annos nullus hoc destruere possit. Et vero accidit etiam, ut ab illo instanti, (usque dum
dynastia Soffaridarum initium caperet,) per quinquaginta & sex
annos Chorosanæ imperium in manibus Taheridarum permaneret.

Pag. 6. lin. Chorofanam is anno uno cum dimidio rexerat.

De tempore regni, ac de anno, quo mortuus est Taherus, non unus, idemque auctoribus fensus est: Abulfeda, ubi principium regni illius ad annum ducentesimum quintum commemorat, asserens: Taherum a Mamuno toti orienti ab urbe Bagdad ad extimos ufque Moslemicæ ditionis fines præfectum fuisse, finem vitæ, & regni ejus ad annum ducentesimum septimum referens hisce verbis explicat: quinto mense (quod evenisset diebus mensis Arabibus كارى الاول المالية gemāzī ül ewwel) obiit Taher, filius Husein, ex febri, tempore peroportuno, antequam aut sibi, aut Mamuno facesseret negotium; quod contigiffet procul dubio, absque fati intercessione. Nam in precibus, quas coetui fidelium die veneris novissimas præiverat, omiserat Mamunum nominare, & vota pro illius incolumitate facere; quod id eum animo agitasse, ut principem imperio privaret, argumento est. Ad eundem itidem annum Elmacinus mortem Taheri refert, in-وفي سنة سبع و مايتي توفي طاهر بن حسين بمرو وكان المأمون : quiens Anno ducentefimo septimo defunctus قد ولاه خراسان قبل ذلك بسنتين vita est Taherus, filius Huseini, Marwæ: cum jam duo anni essent, quod Mamun eum præfecisset Chorosanæ. Hagi Chalfe vero in tabulis suis chronologicis in eundem equidem annum Taheri mortem incidisse commemorat, quin tamen de tempore, quo regno is præfuit, quidquam indicet; quamquam idem ipfe auctor in altera tabula, ubi dynastiarum in terris Moslemicis ortum, & occasum exhibet, de Taheridarum familia memoriæ prodat : آل طاهر بش نغردار ملک در هراة از خراسان تاريخ ظهور يوز طقسان بش تاريخ انقراض ايكييوز

-Taheridarum familia quin اللي طعوز مدّت ملك آلتبش دورت سنه que principes numerat, qui in Herat, Chorosanæ urbe, sedem tenuere; initium principatus ipsorum incidit in annum centesimum nonagesimum quintum, finis vero in annum ducentesimum quinquagesimum nonum. Duravit itaque imperium ipforum sexaginta quatuor annos. Emir Jahjai, epitomator Perficus, anno hegiræ ducentesimo septimo Taherum mortuum effe afferit; at enim, cum paulo inferius anno hegiræ ducentesimo quinquagesimo nono cum Mohammede regnum Taheridarum intercidisse referat, quod tamen, ipso quoque consentiente, per sex, & quinquaginta annos steterat, sane consequens est, Taherum, juxta eundem, supremum sibi Chorosana dominium anno hegiræ ducentesimo tertio arrogasse. Mirchondius nullum quidem, quo Taherus obierit, annum adjicit, verum ex primis fequentis fectionis verbis, ubi anno hegiræ ducentesimo nono, audita Taheri morte, Taleham, filium hujus, a Mamuno gubernandæ Chorosanæ præpositum fuisse, ait, suspicari licet, eundem annum hegiræ ducentesimum nonum simul annum mortis Taheri statuere illum voluisse.

Qui ad manus mihi sunt ex mea ipsius collectione duo codices manuscripti, eundem uterque annum affert, sed, cum ceteri omnes septimum assignent annum, non abs re, scribarum negligentia errorem hunc irrepsisse, conjici poterit, id quod vel ex punctorum mutatione accidere potuisse, nemo quisquam dubitabit. Quod autem varii varios statuant annos, queis Taherus imperio præsuerit, id inde proficisci, pronum est colligere, quod alii, uti Haği Chalfe, initium cæpti a Tahero regiminis ab eo anno repetant, quo is exercitus imperator a Mamuno adversus Eminum renuntiatus est; quod ex iis, quæ ad annum hegiræ centesimum nonagesimum quintum Haği Chalfe adducit, manifestum sit, ubi prælium prius, & relatam de Emini duce, Ali, victoriam exponit, dein demum, regimen auspicatum suisse Taherum, subjungit. Quod quam salsum sit, quotve anni eam inter victoriam, & initum a Tahero imperium intercesserint, ipse relatæ hujus historiæ contextus exhibet.

Sunt alii, qui cum Emir Jahjai eodem, quo Mamunus e Chorofana discessit, anno regimen adiisse Taherum volunt; at mik nus recte hos fentire vel ex eo colligitur, quod Ghafanus in gubernanda Chorofana absque omni dubio Taherum præcesserit. Abulfaragius denique, qui duos regiminis annos Tahero tribuit, rotundo hos numero computasse censendus est; cum contra Mirchondius, accuratione majori usus, annum cum sex mensibus, & quod excurrit, expresserit. His itaque collatis, rem ita se habere, putandum est, Taherum videlicet, ubi anno, & dimidio Chorofanam summo cum imperio obtinuisset, anni hegiræ ducentesimi septimi mense quinto ex sebri diem supremum Mervæ obiisse, omneque Taheridarum regimen quinque supra quinquaginta annos cum aliquot mensibus perdurasse.

Pag. 6. lin.

# O! qui possides binas dexteras.

Aliam, cur ambidexter nominatus sit Taherus, caussam Emir Jahjai adjungit: چون با حضرت بنا بر آن میکویند که چون با حضرت راست من به بیعت میکرد کفت دست راست من به بیعت مأمون مشغولست و دست چپ با حضرت امام بیعت نود آلرضی جواب داد یساری که به بیعت امام مشغول شد آذرا نیز بین توان کفت دست ماها مشغول شد آذرا نیز بین توان کفت ماها مشغول شد آذرا نیز بین توان کفت سوم Ambidextrum ob id vocaverunt, quoniam, dum reverendo antistiti, Ali, filio Musa, Razio homagium præstitistet, dixerat: dextera mea homagio Mamuni dicata est, nunc sinistram homagio reverendi antistitis devovi; ad quod Razius respondit: etiam sinistra, quæ antistitis homagio dicatur, dextera nominari potest.

Ceterum ipse hic princeps Taherus, quod quidem a Mirchondio prætermissum est, a variis, iisque præstantibus animi dotibus commendatur, quas Elmacinus hunc in modum recenset:

وكان اميراً جليلًا شجاعاً سخياً ذا راي و حزم وسياسة و له شعر من جلته ملكت الناس قسراً و اقتداراً و اهلكت الجبايره البراً الله

و وجهت آلخلافة نحو مرواً الي المأمون تدبر ابتداراً الله

قتلت الخليفة في داره الله السيف امواله و يقال

- عجيب لحراقة بن آلحسين كيف تعوم ولاتفرف الم
- و بحران من تحتها واحد واخر من فوقها مطبق ا
- وا عجب من ذلك عيدانها و قدمها كيف لاتورف \*

فقال طاهر اعطوه ثلثماية الف درهم وقال لوزدتنا زد نـــناك

Hic imperator fuit bonus, fortis, liberalis, prudens, magnanimus, & boni regiminis. Carmina etiam fecit, quorum unum hoc est:

"Rexi homines violenter, & potenter, & perdidi gigantes magnos "Ac misi Chalifatum Marwam versus ad Mamunum, qui occurrendo occurrit.

#### Dixit etiam:

- " Occidi Chalifam in domo fua,
- " Et diripui gladio opes ejus.

Ajunt quoque poetam eum celebrasse, cum navicula veheretur in Tigri:

"Mirum est, quomodo navicula Huseini natet, & non submergatur;

"Cum duorum fluviorum alter infra eam fit, alter fuperne eam opereat.

"Sed magis eo mirandum est, quomodo ligna ejus, & trabes non frondescant.

Jussitque ei Taherus dari trecenta aureorum millia, dicens: si plus dedisses nobis, plus dedissemus tibi.

Relatis ad Mamunum de Taheri morte nuntiis, literas re-pig. 7. lin.
gias is ad Taleham miserat, queis Chorosanæ regimen
curæ ipsius concredidit.

Nisi inter mortem Taheri, & inaugurationem Talehæ biennium intercessisse statuatur, minime dubium est, annum hegiræ ducentesisk 2 mum

mum nonum, quo hic Chorosanæ imperium adiit, perperam assumi, quamquam ipsissimus hic annus in codicibus, quos binos me habere dixi ad manum, aperte assignetur. Sed plura de his, eaque uberius exposita pag. 72. & seq. invenies. Patri proxime Taleham in imperio successisse, Emir Jahjai, satis superque testatur, dum ait: من المرابعة عن ما المرابعة عن المرابعة عن المرابعة عن المرابعة عن المرابعة ال

Pag. 7. lin. Refertur Abdullahus Riccæ debellando Nasro, filio Schebibi, infensissimo Chalifæ hæretico occupatus suisse.

acca, aut cum articulo Arracca, & apud Turcas passim Ricca duplicis est notionis: primo siquidem præsecturæ in Mesopotamia, o urse etiam dictæ, nomen est, ut sua in geographia Haği Chalse testatur, quæ ea, qua orientem respicit, parte Mausulam versus protenditur, ad occasum vero Euphratis litora, deinde ad meridiem desertum Sengtar attingit, contra septentrionem denique præsectura Diarbekirensi clauditur. Hæc provincia, Osmanidarum nunc temporis imperio subdita, a Passa primi ordinis regitur, milites seudatarios mille supra quadringentos ad expeditiones bellicas submittere solita.

#### Debellando Nasro, filio Schebibi.

m mileston

Pag. 7. lin. '

De hæretico isto, ejusque gestis, cum alii chronici vix quidquam commemorent, unus, isque jam sæpius celebratus Haği Chalfe in suis tabulis chronologicis ad annum ducentesimum nonum hæc affert: عبدالله بن طاهر و نصر بن شبيب و انكسار عبدالله بن طاهر و نصر بن شبيب وانكسار عبدالله بن عبدالله بن طاهر و نصر بن شبيب وانكسار عبدالله بن عبدالله بن طاهر و نصر بن شبيب وانكسار عبدالله بن عبدالله بن

## Chalifæ infensissimo hæretico.

Pag. 7. lim. 6. & feq.

uit is ex illa secta, quæ Charigiorum compellatur, desumta nempe denominatione, a בּוֹכֵל chawarig plurali participii activi בּוֹכֵל charig, quod egrediens, exiens, aut a lege desciscens denotat. Hanc ex primariis schismaticorum sectis sextam ordine Pocockius in specimine historiæ Arabum recenset. Scheristanus vero hac definine utitur: كَرْمَ عَلَى اللّٰ مَن خَرِجَ عَلَى اللّٰ الل

Primos, qui hoc nomine infigniti funt, eos Pocockius fuiffe refert, qui post حرب صغين harbi safin i. e. pralium Sefiense
ab Ali anno hegiræ trigesimo septimo desecere, constituto sibi duce Abdullaho, silio Wahabi. Hos postea periisse omnes, Elmacinus his verbis testatur: في سنة غان و ثلثين التقي على و عبدالله
على و عبدالله
على و المحابي الحوار فقتلوا الجبيع و إلى يغلت منهم احد
على مسلم التراسبي و المحابي الحوار فقتلوا الجبيع و إلى يغلت منهم احد
على المسلم المس

k 3

Occifi funt ad unum اخرهم ولم يقتل من اصحاب على سوي سبعة انفس omnes, septem tantum e sociis Ali interfectis. Idem Abulfeda sectæ hujus auctorem Zul Chowaise, de quo vaticinium Mohammedis habeatur, hisce verbis in vita Mohammedis statuit: وهو اؤل من يوبغ Atque is primus fuit من الخوارج بالامامة و اول فارف من الدّين ex Chawarigiis, qui fidem suam corrupit circa summi antistitis auctoritatem, ac proinde primus fuit, qui, schismate facto, a religione descivit. Verum minime omnes Charigios in eo, quod cum Ali gefferant, prælio cecidisse, quin nonnullos jam tum temporis in Kermaniam, & Segestaniam, atque alia dilapsos suga suisse loca, ex Schalriftanii narratione palam fit, quæ fic habet : الاقاتارم على بالنهروان معاتلة شديدة فلا انفلت منهم الا اقل من عشرة فاقتل من السلمين اقل من عشرة فانهزم اثنان منهم الي عان و اثنان الي كرمان و اثنان الي سجستان واثنان الي الجزيرة و واحد الي تل مورون باليمن و ظهرت بدعً Acri eos certamine aggressus est Ali in Nahrawan, adeo, ut non evaderent ex ipsis, nisi pauciores decem, cum ex orthodoxis, qui occiderent, infra decem effent. Fugerunt autem ex iis duo in Ommanum, duo in Karmaniam, duo in Segestaniam, & duo in Gezire, unus autem ad Tel Maurum in Jemen, atque inde orta est Charigiorum haresis, quæ istis in locis ad hunc usque diem permansit.

Pag. 7. lin. Refertur Abdullahus -- omnibus a Mamuno itidem provinciis, & regnis, quibus pater præerat, præfectus.

Hanc Abdullahi proximam post patris mortem successionem minus probari posse, ex iis, quæ pag. 76. ex Emir Jahjai allata sunt, satis compertum est, queis id etiam adjungere licebit, Abdullahum eadem omnino tempestate, qua patris defuncti provinciæ a Chalifa curæ ipsius concreditæ suisse perhibentur, Ægypto juxta Elmacinum præfuisse; ita enim ille ad ducentessimum decimum, & sequentes hegiræ annos: وفيها شخص عبدالله بن طاهر بن الحسين الي مصر عبدالله بن طاهر بن الحسين الي مصر واقام بها وفي سنة لحدي عشرة و مايتي دخل عبدالله في سنة لحدي عشرة و مايتي دخل عبدالله

المذكور الي مصر في شهر ربيع اللول فولاها عبد بن ابراهيم و عزل عبد آلله بن آلسري وفي سنة اثنتي عشرة و مايتي ولا عبد آلله بن طاهر آلحسين امره مصر عيسي بن يزيد الجلودي وعزل عنها عياد \_\_\_ وفي سنة ثلث عشره و مايتي عزل آلمامون عبد آلله بن طاهر عن أمرة مصر و ولاها اخاه آلعتصم و أصاف اليه آلشام ايضا و ولا ابنه آلعباس آلجزيرة و أَلَّتْغُور و ٱلعواصم و أمر لكل واحد من ٱلعباس و ٱلعتصم و عبدالله بن طاهر خسماية الف دينار و قيل انهلم يغرف من آلمال مثل ذلك Eodem quoque anno contendit Abdullah, filius Taheri, filii Huseini in Ægyptum, descenditque Belbist, atque ibidem commoratus est. Anno ducentesimo undecimo ingressus est jam memoratus Abdullahus in Ægyptum mense Rabio priori, eique præfecit Ajadum , filium Ibrahimi , remoto Abdullah , filio Affarii. Anno autem ducentesimo duodecimo præfecit Abdullah, silius Taheri, silii Huseini, Ægypto Isam, filium Jezidi, Gjeludæum, remoto Ajado. Anno ducentesimo decimo tertio removit Mamun Abdullahum, silium Taheri, gubernatione Ægypti, præficiens ei fratrem suum Mutasimum, cui & Syriam commist: silium autem suum Abbasam præfecit Mesopotamia, Tsogoura, & Awasima, justique singulis, Abbasæ scilicet, Mutasimo, & Abdullaho, filio Taheri, dari quadraginta aureorum millia, neque unquam dicitur tantum pecuniæ distribuisse, atque illo die.

## In provincia Sistan.

Pag. 7. Mn.

Provincia www sistan, quam vocem Haği Chalse ex seğestan contractam dicit, alio quoque nomine, quod versus meridionales Persia plagas sita sit, in nīmrūz compellata, a Geographo Nubiensi sectione septima, & octava ad clima tertium refertur, atque Chorosana, Kermania, tum Mekrana, & Sindia sinibus circumscribitur. Mons porro in hac provincia ad urbem Ingek occurrit unicus, trium parasangarum altitudine; parte provincia reliqua ex planitie, & arenis, continuo vento agitatis, constante. Regio ceteroquin culta, ubi, secundum traditionem veterum, Nerimani,

rimani, Kahrimani, ejusdemque generis alii antiquæ Persidis heroes sedem sixerunt. Post susceptum Islamismum Chalifarum nomine a provinciæ gubernatoribus regebatur, sere continuis, quod pars incolarum potissima Chærigiorum sectam, Chalifis insestam, prositeretur, motibus turbata, quoad Amru Leisus, uti in historia præsente paulo insra occurret, principatum occupans, summum Chalisæ consensu iis in terris imperium obtineret; procedente tamen tempore hac cum aliis provinciis in antiquum Persiæ regnum rursus coaluir.

Hujus olim provinciæ metropolim Ram suisse, nunc vero in hujus, ruinis utpote consepultæ, locum urbem Zereng successisse Hagi Chalse auctor est; de sructibus itidem, & proventibus provincinciæ hæc subjiciens, eam cumprimis mala punica, tum uvas, atque dactilos optimi generis procreare, sylphium item in pratis colligi, unde assa soetida producatur; incolas denique, quod insecta mula solum, & aer gignerent, selium loco echinos alere.

\*22.7. lin. Anno ducentesimo decimo tertio Taleha, morbo correptus, ad aternitatem transiit.

psum hunc annum Emir Jahjai in epitome sua historica indicat, quamquam in tabulis chronologicis Haği Chalfe nulla neque de morte Talehæ, neque de successoribus hujus Taheridarum samiliæ mentio occurrat.

Pag. 7. line

Commissio in terris Nischaburi prælio.

ersis نيشابور nīsābūr Arabibus نيشابور nīsābūr illustrioribus Chorosanæ urbibus annumerata, a Nassīreddino consentiente etiam Ulughbegio, sub longitudinis gradu 92. 30', latitudinis vero gradu 36. 21'.
sita esse perhibetur. Sunt, qui urbis hujus primodia ab antiquissimo
Persarum monarcha Tamuraso, nomen vero a Sapore repetant,
monarcha item Persico, qui ذو الاكتاف ziul-ektāf i. e. humeris
præditus dicebatur; urbis nisabur nomen ex & neh, quod teste
Haği

Haği Chalfe in antiqua Perfarum lingua urbs fignificat, & sapur, quod alterius scilicet conditoris nomen est, componitur, ut adeo Nīsābūr urbem Saporis denotet.

Per subterraneos porro ductus aquæ in urbem derivantur; celebres etiam lapidum, qui turckini dicuntur, venæ hic conspiciuntur. Quondam sedes Chorosanæ principum suerat; quam a Ta. heridis in Balch, & Merw translatam, atque in hanc denuo 'urbem a Soffaridis restitutam esse, idem Haği Chalse in opere geographico memoriæ prodidit.

## Ad reprimendos temerarios Babeki Hurremdini aufus.

Pag. 8. lin.

uit بابک حرّم الدّین bābek hürremüddin celeberrimus apud Moslemos sui temporis hæresiarcha, a quo sectæ hujus asseclæ passim Hurrimai vocabantur; de his Mohammedes, ben Isaac, narrat: quod secuti fuerint Babekium, qui dixerit obvio cuique se Deum esse, quique in religionem Hurrimæorum induxerit licentiam trucidandi, rapiendi, bello lacessendi &c. Gesta viri hujus uberius Abulfaragius hunc in modum exponit: وكان ابتدا خروج بابك سنة احدي و مايتين و هزم من جيوش آلسلطان عدّة و قتل من قواده جاعة و دخل التاس رعب شديد و هول عظيم و استعظموه و احتوي اليه العطاع واصحاب ٱلفتن وتكاثفة جوعه حتى بلغ فرسانه عشرين الف سوي الهجالة واخذ يمثل بالناس وكان اصحابه لا يدعون رجلًا ولا امراة ولا صبيًا ولا طفلاً مسلمًا أو ذمّياً الله قطعوه و قتلوه و احصى عدد قتلي بايد يهم وكان ماتى الف وخس وخسين الف وخسمايه انسان فلما انتدب الدفشين لحرب بابك قاومه اللفشين سنة و انهزم من بين يديه غير موة وعاوده وال اللهم الله ال التحي بابك الى البذ مدينته فلما ضاف امره خرج هارباً و معه اهله الى بلاد الرمني التجر فعرفه سهل بن سنباط الارمني البطريف فاسره فافتدي نفسه منه بال عظيم فلم يقبل منه و بعثه الى ألافشين بعدما ركب آلارمن من الله و اخته و امراته الفاحشه بين يديه وكذا

كان يفعل الملعون بالتّاس اذا اسرهم مع حرمهم وحمل الأفشين بابك الي آلعتصم وهو بسر من راي فأمر باحضار سياف بابك فحضر فأمره ال يقطع يديه و رجليه فقطعها فسقظ فأمر بذكه و شق بطنه و انفذ رأسه الى Initium autem rebellionis Babeki fuit anno ducentesimo primo, qui multos regis exercitus profligavit, multosque e ducibus ipsius interfecit, adeo, ut gravis homines pavor invaderet, ac valde terrerentur, eumque magni facerent; congregatis autem ad ipsum latronibus, & hominibus seditiosis, creverunt copiœ ipsus, adeo, ut equitum ipsi essent viginti millia præter pedites: coepit etiam homines crudelibus afficere suppliciis, nec reliquerunt socii ipsius, virum, foeminam, puerum, vel infantem Mohammedanum, & fædere iis conjunctum, quem non exciderent, ac trucidarent. Computatus eorum manibus interfectorum numerus erant homines ducenties quinquagies quinquies mille, & quingenti. Cum missus ad bellum ei inferendum Efschin per annum ipsum oppugnasset, plus semel ab eo in fugam versus, iterum eum aggressus est. Eo tandem res devenit, ut, cum se recepisset Babek ad urbem suam Elbez, tandem rebus ipsius afflictis, cum suis exiret, regionem Gracorum fuga petens, habitu mercatoris, Sahel, Ebni Sanbat, Armenus patritius, ipsum agnitum capit, cumque magna se pecunia summa redimere vellet, eam accipere noluit, sed ad Efschinum misit, postquam Armeni cum ipsius matre, sorore, & uxore coram ipso turpia patrassent; nam ita maledictus ille homines tractare solebat, cum eos cum necessariis suis captivos caperet; Efschin vero Babekum ad Al Motasemum, qui tum Sermenraja fuit, abduxit, Qui, Babeki carnifice accersiri jusso, ubi adesset, justi ipsi manus, & pedes præcidere, quibus amputatis cum cecidisset, insum jugulari justi, eique ventrem discindi, caputque ipsius Chorosanam misit, corpus Samarræ patibulo affixit.

Babeki tamen progressiones retardasse aliquantum, dum huic negotio operam dabat, Abdullahum, ex iis apprime manifestum sit, quæ idem Mirchondius tomo tertio in vita Mamuni refert, ubi successibus hæresiarchæ hujus commemoratis, ita concludit: و بعد از Sed postquam رفتن عبدالله بن طاهر مهم بابک حرمي قوي ترکشت Sed postquam Abdul-

Abdullahus, filius Taheri, discesserat, nefandi Babeki res incrementum capiebant. Ceterum Abdullahum anno ducentesimo decimo quarto in Chorosanam discessisse, Abulfeda his verbis innuit: præsiciebat Mamun Abdullahum, filium Taheri, Chorosana.

#### In urbe Dinavar.

Pag. 2. lin

[] rbs נייף, dīnūr, vel deinewar, aut juxta kamus, & Ibni Chalican, dinawar in præcipuis Yrakæ Persicæ urbibus numeratur. Brevem, ac elegantem hujus descriptionem ex Hagi Chalfe opere geographico hic attexere haud alienum erit: دينور سكسن ایکی کچف درجه طول اوتوز التی درجه عرضده فداندن اوج مرحله غرب و شاله بر بلده ع كبيره در مياه و ثاري چوف صحرالي بيول اوجوزلف ير و خلقي اكراد در سلفده بوندن اوتوز سكز يوك دره خراج النوردي بونكله فدان آراسي طاغلردر جنوبه و شماله ممتد اولور آرادة عقبه وار در اندان کچرلر ابن قنیبه و ابو حنیفه دینوری بو شهردندر Dinawar sub 82., & medio longitudinis gradu, latitudinis vero 36. versus urbem Hamadan trium dierum itinere inter occidentem, & septentrionem conspicua urbs est. Prata aguis, & frugibus abundant; hinc & levia funt rerum pretia. Incolarum pars plurima Curda sunt. Antiquis temporibus tributum, quod inde accipiebatur, erat triginta octo Juk (i. e. duarum crumenarum, quarum quælibet quingentos taleros appendit) drachmarum. Hanc inter urbem, & Hamadan montes surgunt, qui inter occidentem, & septentrionem se extendunt. Est via per juga montium ab incolis frequentata. Celebris ille historiographus Ibni Koteiba, & legis Moslemica doctor Abu Hanife ab hac urbe originem suam repetunt.

Azizius quidam, Abdullahi olim mancipium, ad priora prin-Pag. 8. lin. cipis hujus servitia ex Ægypto rediens.

Quo, & quanto tempore Azizii herus in Ægypto commoratus fuerit, superius pag. 78. pluribus expositum est. De ipso autem Azi1 2 zio,

zio, præter id, quod præsens historia resert, nil quidquam constat. De Ægypto, cum tot, tantaque ab aliis jam memoriæ prodita sint, pluribus hic disserere, supervacaneum existimo. Id tamen unum hic addidisse juvabit, Ægyptum a Chalisa Omar anno hegiræ decimo octavo expugnatam, inde ab eo tempore usque ad Chalisatum Mamuni, de quo hic loci in præsente historia sermo incidit, nunquam non Chalisis subditam suisse.

Pag. 8. lin.

#### Ubi ad urbem Kum venisset.

kumm urbs, vel oppidum yrakæ Persicæ, quod longitudinis secundum Nassireddinum, consentiente etiam Ulughbegio, gradus 85.40'. latitudinis vero 34.45'. complectitur. Golius in notis ad Alfraganium advertit, hoc oppidum in campo, ad decem parasangas in longum, latumque patente, medio fere loco Kazwin inter, & Ispahan situm esse; inde nempe triginta septem, hinc triginta novem leucarum itinere, (uti Olearius observat) atque a Raja una, & viginti parasangis abesse. Kumm inter, & Rajam desertum interjacet, in quo stupendæ magnitudinis sabricæ, & munitiones castelli visuntur.

Pag. 9. lin.

# Mamuni e vivis sub bæc tempora sublati.

De anno, quo Mirchondius diem supremum Moatesimum obiisse dicit, eadem omnibus aliis, consentiensque opinio est. Præter ceteros Elmacinus de hujus morte ita disserit: وفي سنة سبع و عشرين عشرة وفي المعتصم بالله بسر من راي قيل انه احتجم فحمّ فات و ذلك ومايتي توفي المعتصم بالله بسر من راي قيل انه احتجم فحمّ فان سنين لاثنتي عشرة لبلة بقيت من شهر ربيع الاول فكانت خلافته ثان سنين سنة المناه الشهر و ثانية اليام و كان عرة ثان و اربعين سنة simo vigesimo septimo obiit Moatesimus Billah Samaræ, ajuntque, cum sanguis ei detractus estet, in febrim eum incidisse, & sic obiisse die decima octava Rabii prioris, cum imperasset octo annos, octo menses, & octo dies, & natus estet annos quadraginta octo.

# Anno ducentesimo trigesimo Abdullabus fatis concessit.

Pag. 9. lin.

Quod ad annum, quo e vivis hic excessit, attinet, cum Mirchondio, Emir Jahjai, Abulfeda, & Elmacinus plane consentiunt, quorum postremus nonnulla, a Mirchondio prætermissa, eaque inter etiam hæc adjungit: وفي سنة ثلاثين و مايتي توفي عبدالله بن الحسين وكان اميراً جليلاً فاضلاً عظيم القدر كرياً شجاعاً و ولي خراسان و مصر و الشام و قصدوه العلما الشعراء و اهسل الادب فاجازهم و اجزل صلاتهم و يقال الله إذا توفي والده طاهر بن الحسين دخل عليه بعض الشعرا فانشده

لولا التسلي بعبد الده ما برحت تبكي على طاهر منا العيون دما الله مات من كان عبد الله ولده ولا تضعضع ركنا منه و انهد ما الله

Anno tricenrtesimo trigesimo vita excessit Abdullah, filius Taheri, filii Huseini: qui imperator fuit egregius, excellens, magnæ auctoritatis, honorabilis, & fortis: quique præfectus fuerat Chorosanæ, Ægypti, & Syriæ; & ad quem confluebant viri docti, eruditi, atque poetæ, qui-

bus munera dabat, & magna dona. Ajunt, cum pater ejus Taherus, filius Huseini, obiisset, ingressum ad eum poetam quendam dixisse:

STATE OF THE PERSON NAMED IN

Si consolationem non admitteret Abdullah, non desinerent oculi a nobis slere sanguinem.

Non moritur is, cujus Abdullah est filius, neque pars aliqua ejus destructione destructur.

Id quoque hic loci haud prætereundum, per errorem annos octo in translatione præsente irrepsisse, cum tamen Emir Jahjai, & Mirchondius annis septemdecim in Chorosana regnasse Abdullahum, diferte affirment. Ceterum in Huffeini libro, mores proborum inscripto, de singulari comitate, & animi demissione Abdullahi erga dicatas Deo personas hoc refertur: Accidit nempe, ut, dum Chorosanæ gubernacula capesseret, plebe omni Nischuburiensi ad eum salutandum conveniente, ex adstantibus quæreret, num, cujuscunque demum conditionis effet, foret quispiam, qui se salutare neglexisfet? asserentibus, binos solummodo id officii prætermisisse monachos, Ahmedem videlicet Farbi, & Mahmudum Eslemi, homines, qui regum palatia devitantes, scientiis insuper divinis se se unice dedidiffent; finite, reposuit, ut eosdem, cum id ipsi facere neglexerant, falutaturus accedam, moxque, conscenso equo, ad eos etiam adibat; quorum curiofiori agendi modo (uti fusius historia exhibet) minime commotus, ea præbuit, cum ipfis conversans, comitatis, & animi demissionis suæ specimina, ut, quanto in honore homines, Deo dicatos, haberet, abunde testatus sit.

Pag. 9. lin.

#### Coetus magorum.

Magi a Persis آتش برست ates perest, (quod proprie ignicola significat, vel etiam بخوس ab Arabibus autem مجوس meğiüs dicuntur; nomina iis, qui Zoroastris legem sequuntur, promiscue imponisolita. Quare & nostrum magorum nomen a dicta voce Arabica originem trahit.

Ipsi nihilominus, qui de mystica pyroduliæ religione propiorem scientiam habent, diversam huic nomini notionem inesse contendunt: in illa namque religione, quæ antiquior, a monarcha Gemsid primordia sua repetit, magi & stellas, & solem, & reliqua quoque aftra, queis divinum quid inesse credebant, supremo cultu prosequebantur; unde auctor libri معجزات فارسى mo\*gizātī farsī de prima Perfarum religione ita apud Hyde disterit: فرس در قديم زمان بر دين صابية بودندي كواكب پرستيدندي تا زمان گشتاسب بن لهراسب Persæ antiquo tempore erant de religione Sabaitarum, stellas colentes usque ad tempus Giustasp, filii Lohrasp. Pyroclastæ contra, qui in perpetua ignis conservatione divinum se spiritum colere opinabantur, Giustaspi temporibus legem, & rationem cultus a Zoroastre edocti sunt. Id quod jam sæpe laudatus Emir Jahjai, ut ceteros, fusius hac de re disputantes omittam, his ver-زردشت پیشوای کبران بعهد او دعوت نبوت کرد کشتاسب : bis testatur دين كبري پذيرفت و اهل ايران را ابرام نمود تاكبري اختيار نمودند و کشتاسب در اصطخر مقام کرفت و بزند خواندن مشغول شد و آتشکدها Zoroaster princeps ignicolarum tempore illius (Giustapis) prophetiam jactitavit, Giustapes hanc novam ignicolarum religionem amplexus, tantum apud Persas institit, usque dum & ipst hunc pyroduliæ cultum profiderentur. Consedit etiam Giustaspes in urbe Istachar, lectionique librorum Zend tempus impendebat, nec non pyrea adificari curavit.

Hoc institutum, curiosiori investigatione haud indignum, jam priori seculo cl. Hyde singulari libro complexus est; nostris vero temporibus, & selicius sortasse Anquetilius. Quam exosa vero Mohammedanis ista sit religio, hi Musladini Sadi versus, quos sub Rosarii sui politici initium exhibet; satis indicant:

اي كريبي كه از خوانه عيب الله كبر و ترسا وظيفه خور داري دوستان را كچا كني محروم الله توكه با دهمنان نظر داري وستان را كچا كني محروم الله توكه با دهمنان نظر داري وستان را كچا كني محروم الله وستان والله وستان والله عنه الله عنه الله عنه وستان الله عنه الله

O benefice Deus! qui ex thesauro recondito

Ignicolis, & simulacrorum cultoribus vitæ sustentationem præstas;

Amicos, quinam destituas

Tu, qui hostium curam geris?

Queis, & ridiculum illud Perfarum de Pyroclastis proverbium hic loci subjicere non abs re fuerit:

Licet Pyroclasta per centum annos ignem accendat, si vel uno momento in eum incidat, aduritur.

Pag. 9. lin.

## Pyreum in urbe Herat.

Nassireddinum, & Ulughbegium gradus longitudinis 94. & 20', latitudinis vero 34. & 30'. numerat; Haği Chalfe contra in suo opere geographico huic urbi 95. gradus cum 30', atque latitudinis 34. & 30'.

30'. esse contendit. Idem auctor in urbis hujus descriptione, in planissimo illam loco explicatam, rivulis irriguam, plurimisque vineis, & hortis circumfusam esse, scribit, atque duabus abhinc parasangis calvum se se montem attollere, in quo pyreum, sersek dictum, extructum fit; ex hoc porro monte devolvi fluvios, per ipsam etiam urbem pervadentes, qui, urbi jamjam viciniores, in partes diffecti, totidem urbis vicos pervagentur. Molares denique lapides nigros ex montis hujus visceribus exsecari, commemorat. Golius in notis ad Alfraganium addit, urbem hanc a quodam باوان behlevān (nomen antiquis Perfidis heroibus imponi solitum) الميمان nerīmān dicto, conditam, atque ab Alexandro restauratam postea, quin denuo exsuscitatam esse. Nullum item dubium esse posse, contendit idem Golius, quin hæc urbs veterum Aria sit, quam Bactriana, & succingenti eam monti conterminam Strabo libro undecimo optime descripferit. Ipsa enim provinciæ nomina conveniunt, ficut præterea Ariam amnis Arius dirimit, ita & urbem قام herāt , five مرى herī fluvius و herī rūd , iplo quoque nomine conspirante, interfluit; a borea demum hanc perflari, tanquam fingulare quid Marcellinus libro vigefimo fecundo animadvertit. Ariam urbem, ne quis fallatur, ab Alexandria, in Ariis constructa, diversam esse, Ptolomæus liquide demonstrat,

Id quoque addidisse hic loci haud nocuerit, Mirchondii hanc urbem patriam suisse, cujus gratia singularem de satis, & vicissitudinibus urbis hujus tractatum sub sinem operis subjunxit, a quo porro natali suo loco e hervī i. e. Heratensis, vel, si mavis, Ariensis

nuncupatur.

## Peracto fingulis annis cenfu.

Pag. 9. lin.

Corano cautum esse, ut ne iis, qui tributa solvunt, molestiæ quidpiam exhibeatur. Hinc Relandus etiam in sua de jure militari Mohammedanorum, contra christianos bellum gerentium, dissertatione in §. nono, & seq. animadversit, Christiano, Judao, & Magorum sectatori Persa, terras Mohammedanorum cum uxore, & liberis inter alia ea quoque lege incolere permissum esse, ut pro se vectigal in annos singulos pendat.

Pag. 9. lin.

90

In vico Malan.

Oppidum مالان mālān, quod & مالين mālīn a Golio in notis ad Alfraganium scribitur, ditionis Heratensis est.

Pag. 10.lin. Nuntiata mox Abdullahi morte, Wasekius Chalifa filium ejus Taherum omnes provincias, queis parens præerat, regere, ac gubernare voluit.

Idem Abulfeda quoque ad annum ducentesimum trigesimum confirmat, ubi, significata Abdullahi morte, subjicit: filio Tahero provinciam beneficiariam dabat Wasek.

Pag,111.lin. Ita bini post captum a Tahero gubernium elapsi anni, cum & ipse Wasekius naturæ debitum penderet.

العالم المالية المالي

te sedisset, febre correptus est, nemine mortuum sentiente, donec facies ipsius lecticam pulsaret.

Mohammedem, filium Abdullahi — Mutemekilius exercitui Pag. 11.lin. præfectum in omnibus simul terris Moslemicis vicarium sibi substituit.

المناق الله الله الله الله الله بعدالله بن طاهر مايتي ولي آلمنوكل على الله الله الله الله بن طاهر والمناق وال

Ceterum Mohammedem istum, utut ab eo inde tempore, quo honoribus a Mutewekilio auctus est, hujus sese obsequiis devoveret adeo, ut teste Elmacino præsiis præesset omnibus, quæ anno hegiræ ducentesimo quinquagesimo primo adversus Motazum gesserat Mutewekilius, sub sinem tamen ab hoc defecisse, itemque auctorem suisse, ut imperio abdicaretur, memoriæ proditur.

Abu Bekrum, Omarum, & Aischam convitiis lacessitos esse. Pag. 11. lin.

Tertium a Mohammede Chalifam Osmanum scribarum vitio hic desiderari existimo; qua eadem ratione & Amru in latina versione Omari loco irrepsit. Hos porro tres, Abu Bekrum, Omarum, & Osmanum, quos una cum Ali sactionis Sunitica assecta راشدین rāsidīne i. e. ad viam rectam ducentes vocant, maximoque secundum

m 2 Mo-

Mohammedem honore prosequuntur, inexpiabili odio ii detestan-

tur, qui Schiitæ passim a Turcis compellantur.

Aischam vero Abu Bekri filiam, & Mohammedis uxorem ea potissimum de caussa a nobili hoc Bagdadensi, Aysa, filio Mohammedis, convitiis petitam suspicari licet, quod hæc mulier, superstite etiamnum in vivis Mohammede, dubiæ in maritum sidei infimularetur, adeo, ut ad fedandum is hunc rumorem Corani fui auctoritate, furata vigefima quarta, versu 11. mendacii illos arguerit, qui hanc rem in vulgus spargere non dubitarent. Hujus vero criminationis, & fuspicionis caussam Maraccius in suis ad laudatum Corani textum animadversionibus, partim Gangnier in annotationibus super vitam Mohammedis capite quadragesimo tertio, ubi de Aifchæ accusatione mentio incidit, pluribus exponunt. Mohammedani interim tantum haic mulieri adhucdum deferunt, ut collectitia illa dicta Mohammedis, & traditiones, quas ab ea proficifci putant, summi æstiment. Aischam denique mortuo Mohammedi quinquaginta circiter annos superfuisse, idem Gangnier in ejusdem libri capite decimo nono auctor est.

Pag. 11. lin.

#### Samirræ.

rbs אלים sāmirrā (quæ vox monente id in notis Golio ad Alfraganium ex של היה fer men ræa contracta est) Iracam ad Babyloniæ pertinet, in orientali Tigris ripa sub gradu longitudinis 79.30′, & latitudinis 34. a Nassireddino, & Ulugh Begio collocata. A Chalifa Motasimo ea de caussa condebatur, quod sola Bagdad militem, quem numerosum admodum habebat, minus capere videretur, mansitque hæc Chalifarum regia ab anno hegiræ ducentesimo vigesimo septimo ad annum hegiræ ducentesimum octogesimum, quo Mutædid billah eandem sedem Bagdadum restituit. Ceterum amplam olim hanc civitatem vix pagi formam modo præ se ferre, orientales geographi testantur. Haği Chalse denique adjungit, eam duodecim horarum itinere ab urbe Bagdad distare.

الم igris nobilis, & in ipsis sacris paginis celebratus sluvius, Arabibus nunc كان diğle dicitur; juxta Curtium autem libro quarto capite 9. a celeritate, qua dessuit, nomen illi inditum est, quia Persica lingua Tigrim sagittam appellant. Hinc & Castelius in dictionario suo Persico-Latino sluvium Tigrim etiamnum عن tir dici testatum sacit. Ad ejus originem quod attinet, refert Golius in notis ad Alfraganium, in septentrionali latere montis Niphatis, qui Tauri pars est, vastissimi hujus sluvii sontes extare; ex editiori dein loco, qui Mesopotamiam ab Armenia dividit, prope Amidam eum errumpere, perque varios ansractus decurrere, dum, cum Euphrate slumine conjunctus, in sinum Persicum se se exoneret.

Taherus — reliquum vitæ tempus in regenda Chorosanæ Pag. 11. lin.
provincia traduxit, dum sub Mustæini Chalifæ imperio
mortem denique oppeteret.

Cum neque mortis annum, neque quantum temporis regno Taherus præfuerit, commemoret Mirchondius, pauca, quæ epitomator Emir Jahjai de Tahero memoriæ prodidit, hic adferre e re fuerit: حاهر بن عبدالله بن عبدالله بن طاهر بعد از پدر بحكم واثق حكومت كرد و در سنده خراسان بدو تعلق كرفت او نيز هشده سال حكومت كرد و در سنده خراسان بدو تعلق كرفت او نيز هشده سال حكومت كرد و در سنده خراسان بدو تعلق كرفت او نيز هشده سال حكومت كرد و در سنده تعالى بالمان بدو تعلق كرفت و نيز هشده سال حكومت كرد و در سنده الله بن عبدالله بن عبدال

Chalifa Mostæinus, Mohammedi, filio Taheri, gubernatio-Pag.11.lin.
nem Chorosanæ demandat.

Mohammedi Gubernationem Chorofanæ anno hegiræ ducentesimo quadragesimo octavo demandatam esse, hisce Abulfeda perhibet:

m 3 Hic

Hic (Mosteiuns) porro eodem anno Chorosanam siduciariam dabat provinciam Mohammedi, silio Taheri, (secundi) silii Abdalla, silii Taheri, (primi) audito, ejus patrem Taherum provincia principem, ejus anni septimo mense obiisse.

Pag. 12. lin. 1.

#### Iracæ.

rovincia عراف jrāk, alio itidem nomine, ad distinquendam jrākam aliam, quæ in Perside est, عراف عرب yrāki arab compellari solita, eadem cum illa veterum Affyria est; terræ nempe tractus juxta Golium in notis ad Alfraganium longe, lateque patens, qui Abulfeda & aliis geographis testibus ab ortu خوزستان chuzestana, & biladulgebel i. e. Sustana, regione item montosa, quæ Assyria, & Media, atque Choromithrenæ etiam parte constat, terminatur; a septentrione بلاد الجزيرة bilādül-gezīret, regionem infulanam, i.e. Mefopotamiam, ab occasu hanc ipsam quoque, & الباديّة elbādīet i. e. Defertum Arabia, ab austro denique partem itidem hujus, mare Perficum, & Susiana extrema contingit; quibus limitibus Babyloniam quoque Ptolomæus circumscribit. Ad ale grāk porro quod attinet, eam Golius laudato loco proprie של כנו אני mā denā minel-bæhri i. e. quod prope mare, vel flumen est, notare afferit; unde & nomen aliud, nempe: استعرفت آلادل iftårakatil-iblu i.e. ad campum maritimum, vel fluvialem venerunt cameli, vel in eo pascuntur, desumtum sit. Et quoniam urbes binæ Kufa, & Basra cum adfitis terræ tractibus nobiliores totius Yrakæ partes haberentur, de literarum, aliarumque rerum gloria certantes, atque eodem tempore conditæ, ambas العراقان elyrākāni i. e. duas yrakas nuncupari consuevisse, illam quidem, quod Arabibus vicina sit, magisque ab iis frequentari foleat , عراف آلعرب ýrākul-arab i. e. Yrakam Arabum, hanc vero, Persis nempe proximiorem, je grākul-agem i. e. Yrakam Persarum; atque hinc العراف elyrakein fæpe numero idem omnino designare, quod العراقين elyrak, nempe Babyloniam.

#### Sacrarum Arabiæ civitatum.

Pag. 12.

I itulò isto, qui Arabice المراقة والمعتصرة والمعتصورة والمعتصورة

Est autem Mecca, urbs in valle extructa, longitudinis 21. gradus cum duabus tertiis complexa, totidem scilicet, quot Macoraba urbi, ut Golius advertit, Ptolomaus tribuit; a Medina, qua duplo major est, decem dierum itinere, a litore vero quadraginta milliaribus Arabicis dissita, & undequaque montibus circumsepta. Urbs ceterum propter immensum ex omnibus regionibus ad sanum illud antiquum confluentium Moslemorum numerum longe celeberrima; haud absimili nomine absidenti i. e. Becca quoque urbs compellatur, licet plerique nomen istud loco sacratiori magis peculiare esse velint. Nulla denique, si puteum propre excipias, in urbe aqua reperitur, præterquam, quae ex imbribus in cisternis collecta asservatur.

Altera dictarum facrarum urbium مدينه medīne est, per antonomasiam, propterea, quod Mohammedis corpus asservat, urbs Arabibus dicta, sicut & Roma simpliciter urbs appellari consuevit. Antiquius nomen يثرب jasreb est, quod & Mohammedes usurpat, ubi trigesima tertia Alcorani sura, versu 13. urbis incolas ita assatur: بناها بقرب jā ehle jasribi i. e. o cives Jasrebæ! quod Beidavius, in hunc locum commentatus, idem esse, contendit, ac si dixisset: o cives Medinæ! Est autem hæc, ut Golius asserit, regio-

nis heğāz urbs, mænibus cincta, & sub 25. gradu cum uno quadrante longitudinis sita, sesqui altero demum gradu ab illo maris Erythræi litore disjuncta, quod portum essicit in oppido elǧār, quod vetus illa Ptolomæi Arga esse videtur. Arabici geographi primos urbis hujus conditores Amalecitas suisse volunt, in quibus tamen nonnulli, Jasrebum, filium Kabjiæ, filii Mehlail, filii Eram, filii Sem, filii Noe, primum eam incoluisse, suoque nomine compellasse asserunt. Urbis territorium planum, parteque potissima salsuginosum est, palmarum tamen, prope montes præcipue, ac frugum quarumdam serax. Mecca prosugus Mohammedes, amice hac in urbe receptus est, ubi annis aliquot subsissens, novam doctrinam publici juris secit, legibus suis, sacrisque ritibus constitutis; arma denique hic loci cum comitibus, & asseclis suis cepit, unde licula anssār i. e. adjutores urbis hujus incolæ dicebantur.

Pag. 12. lin. 6.

### Tabaristanæ.

A abaristana nomen ex Arabicis pracipue geographis innotuit; recentiores geographi Persa, planiorem veteris Tabaristana partem defignaturi, voce שונינון māzanderān utuntur; alteram vero, montibus refertam, فرستان kuhistān appellant. Tabaristan, ut Golius eam describit, regio montosa est, non nisi silvis fere constrata, & fluminibus, ex editis locis in campos decurrentibus, rigata. urbe פְּפָנֵט kazwīn, in provincia Fars sita, in orientem, at declinando ad feptentrionem exporrigitur; ab occidente planam كيلان Kīlān ditionem, & montibus afperum cul deīlem tractum, & inde ab oriente kūms, sive kumisenam attingit. nique pars quædam ad septentrionem deslectens, atque montes inter in planitiem fe fe explicans, ad mare usque excurrit, unde mare Arabibus ab hac provincia Tabaristanicum dicitur, perinde, ut Hyrcanum olim a Gracis, & Romanis ab Hyrcania compellatum fuit; eandem enim cum Hyrcania veterum Tabaristanam esse, nemo dubitat. Sicut præterea, Golio teste, Ptolomæus, & Strabo totam a Media usque ad Oxi fluminis ostia diffutam regionem Hyrcania

eaniæ nomine complectuntur, ita & Tabaristanæ notio sæpius

Comissenam quoque, & Gurgianam comprehendit.

Tabaristanam vero Persis dictum esse hunc terræ tractum, ait Abulfeda, quod is المان nahjetül-fās i. e. regio bipennaria apud Arabes audiret; (منان taber enim illis bipennis, qua arbores cæduntur, المنان istān locus, vel regio est) sive, quod hic iter facientibus ad pandendam viam bipennibus opus sit, sive quod hoc instrumenti genus omnes propemodum incolæ, divites æque, ac pauperes, ut Jakutus scribit, armorum loco secum deserre consueverint.

A pluribus item historicis בי tahmuras, in antiquissimis Persiæ monarchis tertius ordine, novas in hanc provinciam colonias deduxisse fertur, id quod præter Taberium, & notum epitomatorem Emir Jahjai his quoque verbis Chondemirius significat: ספף פולי בי של און purbes Meru, Amul, provinciam Tabaristanam, & ispahanum, Persiæ metropolim, ipse (Tahmuras) ædissicavit, & incolis implevit. Hæc provincia complures viros, doctrina egregie excultos, protulit, in quibus apprime memorandus ווף בשל הלולים של abū giāfar mohammedes, filius giorārii, filii jezīdi, filii chāledi, tabarida, qui primos inter Moslemos rerum gestarum omnium historiam, a multis posthac laudatam, condidit.

## Hafanus, filius Zeidi, Alida.

Pag. 12. lin. 8. &

Chalifarum imperium, aliquanto jam temporis spatio variis motibus quassatum, sub Mostaino infensissimi duo hostes, uterque ex familia Ali, silii Abu Taleb, generi Mohammedis, quasi mutuam sibi operam condicentes, uno, eodemque tempore aggressi sunt: horum unus Abul Husein Jahja, silius Omari, suit, qui Kusa prodiens, Chalifatus dignitatem affectabat; ex successoribus enim celebris illius Tabataba erat, a quo Hagi Chalse eam dynastiam originem trahere dicit, cujus sedes in urbe Kusa erat, & ex qua sex viri per centum, & quadraginta quinque annos ad usque tercentesimum quadragesimum quartum hegiræ annum in principatu sibi invicem

successere. Jam vero Abul Husein iste a Mohammede, silio Abdul- lahi, Taherida, prælio susus, vitaque exutus est.

Alter Hasanus, filius Zeidi, in Tabaristana caput extulit; huic quidem & alter e Taheridarum familia; Suleimanus, filius Abdullahi, Chalifæ justu, arma opponebat, ast non eodem cum fratre fuccessu; potitus namque Tabaristanæ imperio Hasanus novemdecim omnino annis, coque vita functo, frater illius itidem octodecim annis fummam rerum hic administrabat, quin imo alios etiam ejusdem familiæ, novendecim numero, ordine fibi fuccedentes, dynastiam constituisse, Haği Chalfe asserit, quæ ducentesimo quinquagesimo anno coepta, non nisi post quingentorum annorum decurfum, anno scilicet octingentesimo quadragesimo destiterit. tamen de continuato hujus dynastiæ prospero successu mentionem inferens Elmacinus, hæc tantum ad annum hegiræ ducentefimum quinquagesimum primum de Hasano refert : وفي هذه آلسنة غلب طبرستان آلحسن بن زيد بن محمد بن اسعيل من ولد على بن ابي طالب و جرت بينه بين سليمان بن عبدالله عامل محمد بن عبدالله بين طاهر حروب اخرها ال سليمان غلب على طبرستان و هرب "الحسن الى Eodem anno Tabaristanam occupavit Hosenus, filius Zeidi, filii Mohammedis, filii Ismaelis, ex posteris Ali, filii Abutalibis: multisque ab eo, & Suleimano, filio Abdullahi, prafecto Mohammedis, filii Taheri, filii Abdullahi, commissis præliis, tandem Suleiman cepit Tabaristanam, & Hasenus fugit in Deilamam.

Alida nomen Hasano gentile erat: Alidarum vero hæc samilia a primis jam Chalifatus incunabulis insestissime a Chalifis dissidebat, propterea, quod, e medio sublato Ali, hujus silio Hasano Moslemorum principatus, qui successionis jure ipsi competebat, a Moawio eriperetur, quodque gravissimis insuper convitiis Alidarum domus in publicis precibus impeteretur; qui mos usque ad Omari, silii Abdulazizi, decimi quinti Chalifæ tempora obtinuit. Felicior his Alidis, imperium obtinente Mamuno, sors obtigit, cum ipse Chalifa Alium, silium Musa, obsistentibus nequidquam regni optimatibus, sæderis socium, & successorem sibi adoptavit; cujus rei rationem Mirchondius tomo tertio in vita Mamuni exponit,

ubi Chalifam ipsum hac super electione cum Vezirio suo Fazlo, در هر شهری یکی از اولاد علی :filio Sohelii, ita differentem inducit دعويء خلافت میکند و مردم متابعت ایشان کرده هی و می بدیار عرب راه یافته است تدبیر این فتنه باید کرد پیش از آن که کار از دست برود بعد از تقديم أمر مشاورت رأيهاي برآن قرار كرفت كه مأمون شخصي را از جمله سادات که بعلم و دانش و زهد و ورع سر آمد آفرینش باشد ولي عهد كرداند تا علويان بقدم تسليم و ادعان بيش آمده ديكر هيم فتنه ننمايند و بعد از تأمل وتدبير قرعهء اختيار برنام نامي و اسم سامي امام عليهقام أمام على بن موسي "الرضي عليه "الصَّلوة و "السَّلم افتاد كه Ferme in unaquaque اقاصي و اداني بغضل و تقدم او اعتراف داشتند civitate ex Alidarum familia unus existit, Chalifatui inhians, atque suam sibi propriam factionem procurans; unde omnis propemodum Arabia in partes scissa est; igitur consilium ante inire juverit, quam malum invalescat. Re diversimode discussa, id demum ratum habebatur, ut Mamunus virum de gente Alidarum, qui scientia, doctrina, continentia, vitaque proba reliquos antecelleret, sibi fcederis socium deligeret, hacque ratione Alidarum turbas compesceret. His demum perpensis, sors supra Alium, filium Musa, cccidit, quem primores æque, ac inferiores præ reliquis dignum cenfue. re. Quamquam hoc pacto Alidarum auctoritas aliquanto temporis spatio invalesceret, posterioribus tamen temporibus, ut Hottingerus in hift. orient. libro fecundo capite 7. observat, vix ullo loco fuisse, videtur, dum demum grassante Timurio, sin giuneid quidam, austeræ vitæ monachus magno honoris molimine tantam rursus familiæ Ali dignitatem peperit, ut postrema regni Persici dynastia, his nostris temporibus a Nadir Schahio eversa, suam inde originem se se repetere, prædicaret. Alidarum porro asseclis diversam ab aliis Mohammedanis sacrorum rituum administrationem esse, binæ illæ Schiitarum, & Sunitarum sestæ, inde oriundæ, satis, superque indicant.

Ghila-

P2g.12.lin. 10. & feq. Ghilani, & Deilemi urbes in potestatem redegit.

Thilani, & Deilemi regiones, notante Nassireddino sub climate quarto fitas, Tabaristanam proxime contingere, ex iis, quæ pagina 96. allata funt, fatis, superque patet. Referente Golio, universa illa planities inter montes Deilem, & mare Caspium interjacens, Persis كيلان kīlān , Arabibus vero جيلان gīlān dicitur, ob differentes nempe montium Deilemi situs, slexusque latitudine inæquali. Quare inferiorem hanc, planamque partem Kileorum, quos Ptolomæus Gelos vocat, continuam mari Caspio regionem esse, nemo quisquam dubitaverit. Maximam ditionis hujus latitudinem duarum dierum itinere definiri, Hagi Chalfe in suo opere geographico com-Incolæ juxta eunder auctorem levis ingenii, macie extenuati, & fordidi funt; lingua insuper propria, neque Arabica, neque Persica cognata, utentes. Urbes similiter, præ ceteris conspicuæ, non nisi duodecim hic numerantur. Regionis hujus, quam asperi, & silvis constrati montes cingunt, prata aquis abundant, quod maxima anni parte pluvia irrigetur. Oryza itidem, & aves plurima parte incolarum nutrimentum funt. Ghīlān ceterum bifariam dividitur, cujus una pars cum terris, eo pertinentibus, ناعبان, لومن المارشة , altera vero cum suis pariter tractibus شت rest , & فومن fumen compellatur.

Deilem, quam Perfa دولم dilem dicunt, fecundum Golium regio ampla, & potiori fui parte montofa est, quam ab ortu Tabaristana, & pars anterior ditionis Reja, a meridie ejusdem Reja pars altera, itemque Kazwini tractus cum Aderbeğiana terminat, qua & alia sui parte eandem ab occasu cingit, a septentrione denique ejus terminum mare Hyrcanum statuunt aliqui, ita, ut hoc pacto utramque regionis Deilemitica partem comprehendant, montosam nimirum illam, quae proprie Deilem dicitur, atque planam alteram, peculiari nomine Ghilān compellatam, hac eadem pagina paulo ante descripta est. Ipsum porro Deilem vocabulum prioribus temporibus populi cujusdam suisse nomen, unde stationes, ab eo inhabitata, Deilem denominatae sint, sequentibus Haği Chalse perhibet: بر جيلك يعني قبايلك اسميدر كه مترالوينه اول قومك اسمي علم اولشدر

Deilemidas a Procopio libro quarto historiæ Gothicæ nuncupari Dolomitas, hic quoque loci animadvertendum. Asperos demum, & arduos, aquis quoque, ac silvis refertos esse Deilemi montes, geographi orientales testantur, id quod ea potissimum parte intelligas, quæ Tubaristanam inter, & Kazwinum mare respicit. Ceterum omnia fere regionis hujus oppida montibus insident.

## Rejam - fe recipere cogebatur.

Pag. 12. lin.

Jeja, seu L, reji, urbs, & ditio in provincia Yrakæ Persicæ, secundum Haği Chalfe sub gradu longitudinis 87, latitudinis 35. & 53' sita, amplissimi olim ambitus extitit, a Huschengio, monarcha juxta ac legislatore Persarum antiquissimo, condita, a Menugehro autem, antiquo item monarcha, ampliscata. Urbem istam Mohammedes Mahadius, iis in partibus, antequam Chalisa salutaretur, præsecti munere sunctus, ædisciis plurimis exornarat, adeo, ut ob incolarum, & advenarum frequentiam nulli omnino urbium iis tempore triste id satum subiit, ut omni sui parte diruta, nobilioribus quoque civibus, quos, 700000 numero, Scheichius Negmeddinus interemtos suisse afferit, spoliaretur. Incolis licet Ghazan Chani tempore nonnihil auctis, ad pristinum tamen splendorem neutiquam perveniebat; siquidem, cum, subortis bellis civilibus, se se mutuo incolæ interimerent, diu quietæ esse urbi minime licuit.

Bini, quorum celebriori Musa nomen, civitatem istam suvii dirimunt. Ditioni porro urbis hujus præcipui ex gossipio proventus sunt, quamvis & optimis omnis generis fructibus, in quibus pepones æque, ac melones, mala item punica, & persica cum pyris, pomisque numeres, abundet adeo, ut iis præstantiores haud facile reperias. Ut in geographico Haği Chalfe opere videre licet. Pag. 12.lin. Hinc superstites sibi dies in otio transigebat Suleimanus ad annum ducentesimum quinquagesimum tertium, quo vita functus est.

De hoc, si ea, quæ Mirchondius narrat, excipias, ex historicis reliquis nil quidquam innotescit; quamquam Abulfeda, itemque Elmacinus mortem Mohammedis, silii Abdullahi, fratrisque Suleimani, ad ipsum hunc ducentesimum quinquagesimum tertium annum referant, in cujus rei testimonium prioris auctoris verba (posterioris enim jam pagina 91. adducta sunt) hic adjecisse juverit: Eodem (anno nempe ducentesimo quinquagesimo tertio) obiit Mohammed, silius Abdullahi, silii Taheri, (primi) silii Huseini.

Pag. 12.lin. Jacub, filius Leisii, — pluribus subactis Chorosanæ oppidis, exercitum recta urbem Herat versus duxit.

Primam Jacubi, silii Leisii in Chorosanam irruptionem ducentesimo quinquagesimo tertio anno evenisse chronologica itidem Hagi Chalfe tabula hisce comprobant: استيلاء يعقوب صفارى بر خراسان Jacubus Soffarida Chorosanam expugnat. Cujus samiliae uberiorem hoc loco mentionem sacere, vel ex eo supervacaneum suerit, quod sussionali de gestis ipsius in proxime sequenti dynastia sermo occurrat.

Pag.12. lin.

# Urbem ipsam Kuseng.

إلا من nomine is terræ tractus cum urbe non ignobili intelligitur, qui Heratiensi alias territorio accenseri solet. Urbis ipsius diversa esse nomina, Haği Chalse testis est, qui inter alia, & sequentia de hac urbe exaravit: جلاد خراسان در پشنک بن افراسیاب بنا اتمکله شهر فشنج دیدیلر کیدهری فوشنج پشنک دیرلردی صگره تعریب ایدوب شهر فشنج دیدیلر کیدهری فوشنج ویدیلر ایله شهرت بولدی بعضار انگ بانیسی هوشنکدر دیدیلر وارد ویدیلر میدیلر فرست بولدی بعضار انگ بانیسی هوشنکدر دیدیلر فرست وهرب می ایدوب به می Urbs Chorosanæ est, quam, quoniam eam filius Afrāsīābi ædiscarat, urbem Pusenk dixere; postea mutato paululum nomine urbem Kuseng nominarunt.

Successi temporis sub nomine Fuseng inclaruit. Nonnulli urbis hujus conditorem fuisse Husenkium afferunt; notum nempe jam inter antiquos Persia monarcham. Idem præterea Hagi Chalfe, urbem hanc, fi longitudinem spectes, sub 95, fi latitudinem, sub 34. gradu esse, scribit; juxta eundem ab urbe Herat occidentem inter, & feptentrionem quinque parafangis distans, in planum patet, hortisque, & aquis abundat. Flumen item ab urbe Herat nomen habet, muro denique, fossaque cingitur, ita, ut ad eam per tres solummo-

do portas accessus pateat.

Ad ipfam hujus urbis regionem quod attinet, omni frugum, & fructuum genere ea abundat, atque ab uvarum præprimis varietate celebratur adeo, ut al centena ibidem uvarum genera numerentur. Hic vetustum quoque ædificium ab Abrahamo, uti fama fert, extructum conspicitur, quo Heratensis populus, Numini supplicaturus, quot annis confluit. De hoc fano rem fane lepidam, & miram afferunt, evenire videlicet, ut, fi vir, in publico munere constitutus, peregrinatione hac facra fungatur, is procul dubio officio suo excidat; fieri inde, ut viri, magistratibus conspicui, nunquam ad locum istum iter suspiciant. Haud procul inde mons denique vifitur, in cujus summitate vestigia reperias, quæ ab Abrahamo impressa, pariter perhibentur.

Anno ducentesimo quinquagesimo septimo Hasan quoque, filius Pag. 12.11a. Zeidi, Alida, Giorgiam armata sibi manu vendicavit.

استيلاء داعيء كبير بر و Hagi Chalfe commemorat: استيلاء داعيء كبير بر Magnus ille prætendens occupat Giorgianam. In eandem denique sententiam & Abulfeda hisce verbis concedit: Eodem (anno nempe ducentesimo quinquagesimo septimo) suscipiebat Alida, Tabaristana dominus, Hasan, silius Zeidi, expeditionem adversus Giorgianam, eamque subigebat,

چان قiorgian primarium cognominis , & feparatæ provinciæ oppidum quod, ad Tabaristanam aliqui, alii ad Charezmiam, nonnulli denique ad Chorofanam referunt, cum fingulis finitiGiorgiana ceterum ob aerem minus falubrem passim Chorofanorum sepulcrum esse, perhibetur; ubi tamen, quod singulare
est, tanta celeritate crescunt arbores, ut unius anni curriculo in
eam altitudinem exsurgant, ad quam decem omnino annorum spatium alibi locorum requiratur. Ob aeris porro æstum gossipium
æque, ac sericum maxima copia in eadem provincia procreatur.
Hujus provinciæ incolæ in communi illa Persidis devastatione, Mogulensium tempore, ad unum omnes periere; qui eam hodiedum
incolunt, ut plurimum Schiitæ sunt.

Pag. 14.lin. Jacubus, quæ sibi mandata essent, significans, exemto e vagina gladio, hunc diploma, ait, mihi esse scito.

 cubus, filius Leisii, Soffarida, Nischaburum; cum potitus jam rerum esset in illis partibus, & Mohammedem, filium Taheri, filium Huseini, in carcerem conjecit cum domesticis ejus,
delicias eorum capiens. Ex quibus ipse pariter annus, quo
Taheridarum dynastia interiit, quemque addere neglexit Mirchondius, innotescit. Narrationi Elmacini etiam Haği Chalse ad
eundem annum ducentesimum quinquagesimum nonum suffragatur:

-Dum Ja و انقراض آل طاهر در خراسان باستيلاء يعقوب بن ليث صفار cubus, filius Leisii, Chorosanam occupat, Taheridarum familia regnandi finem facit. Quam familiam Emir Jahjai, ubi annum, quo hæc regnandi finem fecerat, commemorat, cumprimis a peculiaribus quoque animi dotibus, queis inclarescebat, hisce verbis com-در سنه و تسع و خسین و مایتین یعقوب لیث محمد بن : mendat طاهرا بصد و شصد نفر از اقارب و عشایر او بکرفت و بسیستان فرستاد و دولت طاهریان در خراسان بسر آمد و ایشان فه پادشاهان عادل کری هنر پرور بودند خراسان در ایام حکومت این طبقه در نهایت مهوری و Anno ducentesimo quinquagesimo nono Jacub Leisius, Soffarida, Mohammedem, filium Taheri, una cum centum, & sexaginta affinibus, & consanguineis captum, in Sistaniam transmisit, qua ratione Tuheridarum in Chorosana principatus ad finem pervenit. Et vero singuli hi principes a justitia, benignitate, & quod plurimum virtutem coluerint, commendantur. Ipfa denique Chorosana, tempore, quo hac dynastia extitit, majorem in modum fuit culta, & incolis aucta.

Inter alia liberalitatis, & munificentiæ specimina, a Moham-Pag.14.lin. hammede, filio Taheri, edita, & hoc est.

Ad

### AD DYNASTIAM SOFFARIDARUM.

Pag. 17.lin. De fatis familia Leis, qua apud bistoricos Soffaridarum nomine celebris est.

Dynastiæ hujus rara æque, ac prioris apud historicos mentio occurrit, quod nonnulli ambas beneficiariis Chalifarum provinciis adnumerent. Verum minus id recte fieri, vel ex Mirchondio manifestum sit, qui, quanta hujus etiam dynastiæ principes auctoritate polluerint, quamve exiguo studio Chalifarum mandatis obsecundaverint, in narratione sua sæpenumero testatum facit.

Nomen dynastiæ hujus Soffaridarum est, quod a Leis, auctore samiliæ, mutuata est, auctores ejusdem silius, sub initium operam dabat. Id enim, si antiquiorem quoque historiam consulimus, singulare Persiæ satum suerat, quod saluti non minus, ac auctoritati suæ per opisices prospicere cogeretur; siquidem ex vetustissimorum Persiæ monarcharum historia constat, Persiæ regnum a Zohaki tyrannide, qua vir hic, sui temporis serocissimus, illud oppressum ibat, Kjawi, sabri ferrarii, opera liberatum, atque legitimo hæredi, Feriduno, silio Gemsidis, restitutum suisse. Unde sactum, ut ob rei tam singularis memoriam posteri monarchæ Persiæ perizonio viri hujus, ex corio consecto, pro vexillo uterentur.

Pag. 17. lin. 5. & feq.

Leisio, patri Jacubi, - tres fuere filii.

Diffusam equidem gestorum, quæ ad Leisti sobolem attinent, historiam Mirchondius contexuit, quin tamen aut initium, quo familia hæc regnare cæperat, aut sinem, quo desierat, annotet. Qua in re cum Emir Jahjai quoque, & Haği Chalfe ab invicem dissentiant, utriusque sententiam exponere necesse sueris præmissa, quo res clarior siat, familiæ hujus tabula genealogica:

Leifius

#### Leifius faber ærarius

### Auctor dynastiæ Soffaridarum

I.
Jacubus
Capto Mobammede, filio
Taberi , a. h. 259. Choro-
fana potitur, m. a. h.
265.

Amrus

Jacubo fratri a. h. 265.

fuccedit; ab Ismaele

Samanida a. h. 287. captus, tandem circa a. h.

289. Bagdadi in carcere interiit.

IV. Leifius Per paucos dies umperium tenuit.

Maadil Breve pariter hujus, ut fratris Leifüs, imperium.

Ali

III.

Taherus.

Amru Leisio in captivitatem delapso, ab optimatibus Sistania ad
thronum evestus, atque a Segbero, liberto Amri Leisii, a. h. 296.
bello captus, Bagdadum ad Chalifam transmittitur.

Jacubus.

Cum fratre Tabero captivus a Segbero pariter Bagdadum transmittitur.

> VI. Amrus.

A Mohammede, filio Hermuzi, princeps Sistania a. h. 300. creatus, subin ab Huseino, filio Ali, capitur, & Bucharam ad Ahmedem, filium Ismaelis, abducitur.

Ahmedes.

Chalefus.

A Mansuro, filio Nubi, in regnum Sistaniæ a. h. 353. & seq.
restitutus, tum vero a Mabmudo
Sultano a. h. 393. victus, captusque, a h. 399. vivere desiit.

Amrus.
A patre occi-

Taherus.
A patre itidem interimitur.

Abu Hafizius.
Post mortem patris, ejusdem relista bona, annuente Sultano
Mahmudo, ex hæreditate adi-

Genealogicum ordinem, quo sibi dynastiæ hujus principes successere, dubium esse, ac cumprimis, si Chalefum, ejusque patrem, Ahmedem, & avum spectes, cum Mirchondio, & historici alii annotant. Unde haud mirum, præsenti quoque in tabula hiatum hac in re quempiam apparere. Ad utriusque porro tam Emir Jah-

pilcitur.

jai, quam Haği Chalfe sententiam quod attinet, eorundem verba hoc loco subjicere placuit, quorum prior de hac dynastia sequentia perhibet: כנ בע משונים של משונים משונים של משונים משונים משונים משונים משונים משונים של משונים משונים משונים משונים משונים של משונים משונים של משונים של משונים משונים של משונים

de paulo post in Jacubi potestatem delapso.

Diversa sentit Haği Chalfe, qui in tabulis chronologicis de eadem dynastia, cujus hic mentio sit, ita breviter disserit: الله على الله عل

In Siftania imperium usque ad quadringentesimum annum perseveravit; hinc Haği Chalfe in alio opere, geographico scilicet illo, sæpius etiam hic laudato, ubi de Sistaniæ administratione mentio incidit, brevem, uti mox patebit, principum regni illius historiam adnestit: ملك سيستان بو اقليم خلغاء راشدين عصرنده فتح المين بني اميّه، و آل عبّاس طرفندن وآليلر ضبط ايدرلردې درهم بن اولنوب بني اميّه، و آل عبّاس طرفندن وآليلر ضبط ايدرلردې درهم بن حسين ولايتي نوبتنده ليث صغّار ظهور ايدوب توج صتاركن درهه انتساب ايتدي و سرعسكر اولدي ليث وفاتندن صحّره اوغلي يعقوب برينه كجدې

كجدي ايكييوز اوتوز يديده درهم دخي وفات ايدوب اوغلي صالح حكومته قادر اوامغله يعقوب اموري قبضهء تصوفته آلوب جلوس ایتدی و مستقل پادشاه اولدی خراسانی آل طاهردن آلوب کرمان و فارسه دخى مستولى اولدي ايكييوز التهش بشده وفات ايدوب بهادري عرو يرينه كچدي خليفديه اطاعت ايدوب منشور اولدي قرستان و غرنه و مازندرانه مستول اولدي صكره مخالفت ايدوب بغدادي آآت دلدي أمير اسعيل ساماني خليفه طرفندن اوزرينه كلوب بلج ناحيهسنده بوزدي كرفتار ايتدي ايكي سنه حبسدن صكره ايكيبوز سكسن طـقوزده قنل اولندي يكرمي ايكي ييل پادشاهلف سوردي صكره اوغلنك اوغلى طاهر بن محمد سيستانده جلوس ايدوب فارسه مستولي اولدي معتضد الآ أمير بدرييي كوندروب بوزدي ليث بن على بن ليث طاهردن صكره پادشاه اولدي فارسه اشكر چكدي صكره برادري معدل بن على يرينه کچوب بر زمان سوردي بعده عرو بن يعقوب اوجييوزده پادشاه اولدي بعده احد بن خلف برينه کچدي هراتده عر کچردي خلف بن احد پدري برينه کچوب غايت فاضل و عاقل قويدي يوز جادده بر تـفسير تألف اتدردي طقسان طقوزده وفات ايدوب اوغلى طاهر يرينه كجوب غايت فاضل وعاقل قويدي و پادشاهلف سوردي سراي طاهر اكا منسوب در دورد يوز حدودنده منقرض اولديار صگره غزنويار و سلجوقيار طرفندن حكام ضبطنه كيروب بالاخره عجم شاهاري مستولى اولدي حالا قزلباش خانلري ضبطنده در قندهاره وارتجه انام حكم ايدرلر اوتهسي بادشاه هند تصرفنده در قندهاره ایکی طرف نزاع اوزره در کاه هندیلر آلور کاه De regibus Sistaniæ. Clima hoc sub imperio primorum quatuor post Mohammedem Chalifarum expugnatum fuit. Ommiadarum, atque post hanc Abasidarum familia per præsectos hanc provinciam administrari curavit; hac deinde administratione ad Derhemum, filium Huseini, devoluta, Leisius ille Soffarida prodiit, qui, are primum vendito, Derhemi se se servitiis postea addi-

xit,

xit, atque ad belli ducis fastigium evectus est. Mortuo Leisto, filius Jacubus patris dignitatem adeptus est; anno ducentesimo septimo Derhemus quoque supremum diem obiit. Filio autem illius Salihio, provincia huic gubernanda haud pari, Jacubus summam rerum administrationem auspicatus, solium conscendit, & dominatum occupavit. Chorosana deinde Taheridis erepta, Kermaniam insuper, & Fars; provincias, suo posthac imperio adjecit. Anno ducentesimo sexagesimo quinto communi hominum fato succumbens, fratri Amru imperium reliquit. Hic Chalifa se se subjiciens, inaugurationem ab eo impetravit. Ubi dein victricibus illius armis provincia, Kuhestan, Ghazan, & Mazanderan ceffere, Chalifa refractarium se exhibens, Bagdadum capere cogitabat. Emir Ismael vero Samanida, a Chalifa evocatus, contra Amrum movit, quem devictum in regione Balch cepit. Duorum annorum captivitate defunctus, anno ducentesimo octogesimo nono vita privatus est; postquam viginti duobus annis imperium tenuisset. Post hunc fratris filius Taherius, Sistania principatum adiit, suaque provinciam Fars potestati subjecit, cujus exercitum Chalifa Moatezidus, obviam misso Emir Bederi, fudit. Tahero successit Leisius, filius Ali, filii Leisii, qui in provinciam Fars exercitum ducebat. Hujus locum occupans frater Maadil, filius Ali, brevi tempore imperio prafuit. Anno tercentesimo Amrus, filius Jacubi, ad regimen accessit, & post hunc Ahmedes, filius Chalefi, Herata atatem agens. Patris locum occupavit Chalefus, vir perguam excellens, & doctus, qui, postquam commentarios in Coranum, in centum volumina digestos, edi curavit, anno nonagestmo nono vitæ finem fecerat; successorem nactus Taherum filium, doctrina itidem, & virtute præstantem, qui, supremus regni moderator, palatio Taher (quod Bagdadi erat) nomen dedit. dente sub seculi quinti initia Soffaridarum regno, præfecti in provincia Sistan successere, a Ghaznevidarum primum, dein a Selgiukidarum familia constituti ; postremum Persiæ principes in potestatem eam redegerunt. Nunc a satrapis familia, in Persia hodie regnantis, administratur. Imperium vero horum satraparum Kandaharum usque se extendit; ulteriora enim ad India monarchas pertinent. De ipso Kandaharo utnamque inter partem perpetua lis est, jam Indis, jam iterum Persis eam sibi vindicantibus. QuaQuare humanitate quadam in hoc vivendi genere, & modera-P2g.17.lin.

Lerbelotius in vita Jacubi de moderatione, qua adversus eos, quos spoliavit, usus est, singulare quid commemorat, quod & Derhemi gratiam ipsi conciliavit, & quadam ratione viam ad principatum aperuit. Evenerat quippe, ut nocte quadam palatium Derhemi, principis Sistania, subiens, prædam sat amplam colligeret, eamque secum asportaturus in lapidem quempiam pede offenderet. quem magni pretii esse ratus, de terra levat, suæ, quo a dubio isto liberaretur, mox linguæ admovens. Sed enim, ut primum falem esse hunc lapidem senserat, tanta hujus religione tactus est, (sal enim orientalibus hospitalitatis symbolum) ut se se, relicta penitus præda, in domum suam reciperet. Postera subin dies amittendarum opum tantarum periculum in palatio detexerat, neque adeo pronum fuit conjicere, quisnam occasionem tam præclaram opimæ prædæ capiendæ præterlabi passus sit. Post multas investigationes is Jacubus fuisse deprehendebatur, siguidem rem principi, ut accidit, candide aperiebat, tantam idcirco fibi huius existimationem pariens, ut haud ex vano dici potuerit, religionem, fali exhibitam, summam ipsi fortunam accersiisse. Hoc loco & illud animadvertisse juverit, salem una comedere de iis apud orientales dici, qui familiariter cum aliquo utuntur; quare Jacubus commemorato paulo ante facto indicare voluit, beneficia haud quaquam malefactis compensanda esse. Hinc proverbium illud Persicum. quod Livinus Warnerius in sua proverbiorum centuria ordine primum exhibet, eo pariter alludit:

جاي که نوك خوري نوکدان مشکن

In loco, ubi sal comedis, salinum ne frangito.

Ast vero Salihius.

Pag.18.lia.

Notandus hic error, qui nemini non patet, Salihio scilicet Derhemum hoc, loco substituendum esse, qui quod exercitum in obsequio

quio continere nesciret, Jacubo, filio Leisii, omnem pedetentim potestatem relinquere cogebatur. Ita quidem Mirchondius sentit; cui & Abulfeda, simul commemorans, eundem militiæ fundamenta fub Salihio posuisse, hisce verbis assentitur: Militiæ tyrocinium, & fortunæ, quæ postmodum ipsi tam luculenta affulsit, fundamenta ponebat sub aliquo Salihio, filio Nasri, Arabe quidem Kenanita, natalibus autem, sedeque Segestanico homine, qui a voluntaria adversus Charegitas militia, eogue, quod volentes omnes in laborum, & discriminum societatem venire, ad eandem militiam invitabat, inclaruit. Salihio vivis exemto, transibat Jacub in successoris familiam, Derhemi, filii Huseini. Quia vero Derhem iste rebus gerendis se parem non monstrabat, homo, qui administrare, & tueri parta, & copiis imperare neque nosset, neque curaret: conveniebant castra Jacubum, eique communi consensu suum imperium deferebant. que Derhem Jacubo de summa auctoritate decedere cessabat, probe suce inertiæ sibi conscius. In eo ceterum a Mirchondio differt Abulfeda, quod hic Derhemum, filium Huseini, ille vero filium Nasirii fuisse statuat.

Contra vero Epitomator Emir Jahjai ad illius patrem hæc referens, ait: كرد منقاد نشد كرد منقاد شد كرد و تحدّف بديد كرد منقاد نشر دي و مال كس از سلاح ورزي بره زني افتاد اتما دراين طريق انصاف سپر دي و مال كس بيكپاره نبردي و بعد از آن بملازمت درهم بن نصر كه دهاي سيستان بيكپاره نبردي و بعد از آن بملازمت درهم بن نصر كه دهاي سيستان بود رفت و پيش او مرتبه و جاه يافت و امير لشكر شد بعداز او پـسرش يعقوب بدين جاه رسيد پس درهم بن نصروفات كرد و بنابرآن پسرآن ليث يعقوب بدين جاه رسيد پس درهم بن نصروفات كرد و بنابرآن پسرآن ليث دروي شدند يعقوب بدين جاه رسيد پس درهم بن نصروفات كرد و بنابرآن پسرآن ليث مدند يعقوب بدين اله رسيد بس درهم بن نصر وفات كرد و بنابرآن پسرآن ليث الم اله نامان illi ingenium erat, arte sua minime contentus, arma tentavit, wias infestare coepit. Verum in hoc novo vivendi genere magna moderatione usus, haud omnia uni eripiebat. Derhemo deinde, filio Nasirii, qui Sistaniæ imperabat, se se auctoritatis procedente tempore pervenit, ut exercitus etiam dux deligeretur. Huic post mortem Jacubus filius succedebat; atque ipso quoque Derhemo, filio Nasirii, vita functo, Leisii filii obedientiam absicientes, summum ipsus provinciæ dominium usurparunt.

Chro-

Chronicon, vulgo absolutissimum chronicorum opus inscriptum. Pag. 18.1in.

الكرم الكريم الشيباني العرف بابن الأثير الجزري الماقي المنال الكريم الشيباني العرف الكريم الشيباني العرف بابن الأثير الجزري الماقي عدالكريم الشيباني العرف بابن الماقي والماقية الماقية الماقي

Plura libri hujus exempla in publicis bibliothecis extant, ut in illa Byzantina, a Raghib Paffa anno hegiræ millesimo centesimo septuagesimo sexto instructa; nec minus in splendida illa librorum collectione, a regnante Sultano anno hegiræ millesimo centesimo, nonagesimo quarto, Christi vero millesimo septingentesimo septuagesimo nono publici juris sacta; cui, præter ingentem voluminum numerum, quo ceteris præstat, id quoque peculiare est, quod novem mensium, & dimidii intervallo tota ipsius bibliothecæ sabrica persecta sit.

Anno — — ducentesimo quinquagesimo tertio, ut supra in-Pag. 18.1111.
nuimus, Chorosanam rursus cum exercitu suo adortus

Jacubus.

acubi Leisii in Chorosanam irruptionem ab Haği Chalse ad hunc annum referri jam supra pagina 102. commemoratum est. Cui sententiæ Abulseda quoque his verbis subscribit: Eodem (anno ducentesimo quinquagesimo tertio) potitus est Herata, & Fusengia Jacub Sossar, crevitque viribus adeo, ut Emiro Chorosana, & aliarum terrarum dominis formidandus esset.

Iter

63

Pag.18, lin.

### Iter in Kermaniam perfecutus.

rovincia كرمان Kermān fecundum perpetuam orientalium relationem a Japheti progenie, a كرمان Kermān nimirum, filio خرائ felūg, nomen traxit, & antiquis Carmaniæ nomine nota fuit; cui nonnulli etiam regiones Hermuzum, & Lar adnumerant, aliis contra, binas has provincias ab illa neutiquam dependere, afferentibus; jam fecundum posteriorum sententiam Kermania provinciis Fars, & Lar ad occasum, ad meridiem regione Hermuz, desertis provinciæ Mekran ad orientem, ad septentrionem denique desertis Sistaniæ terminatur. Latitudo æque, ac longitudo provinciæ hujus octoginta circiter supra centum parasangis desinitur. Ceterum in regione, maxima parte perquam frequenti, urbes quidem raræ, sed eo copiosiora in locis planis æstiva deprehenduntur. In terris, urbi pum vicinioribus, amæna aquæ, & aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, se aeris salubritas, magna item ssum vicinioribus, amæna aquæ, s

Quo tempore Chozrewi principes jura Persiæ dedere, sexcenta juk ab hac provincia exacta sunt, de qua tamen summa aliquantum postea remittebatur. De vicissitudinibus illius meminit Hagi Chalfe, (cui & superiorem descriptionem debeo) devicta Omari Chalise tempore Persia, hanc quoque provinciam victricibus Chalise armis cedere coactam, & a præsectis ad id usque temporis administratam suisse, dum vicini principes summam potestatem usurparunt; id quod in præsentia, hoc in opere laudata, tempora incidit.

Pag. 13.lin. 24. & feq.

## Directo exin Schirazum versus itinere.

ersis المرازة sīraz urbs cum amplo territorio, & provinciæ Fars caput est, cui Nassireddinus, & Ulughbegius gradus longitudinis 88., & latitudinis 29. & 36. Haği Chalfe vero in opere geographico 88. cum dimidio longitudinis, & 29. item cum dimidio latitudinis gradus tribuit. Vetus opinio est, Schirazum ab antiquo Persidis monarcha, Tamurazo, conditum esse; ad verum tamen propius accedit illa sententia, (cui & Haği Chalfe suffragatur) Heğa-

ğum

ment with the more

gum anno hegiræ septuagesimo sexto eam ædisicasse. Ceterum singulæ sere domus suos colunt hortos, quorum proprio quisque slumine irrigatur. Urbs, ad quam per novem portas accessus patet, in septem vicos dividitur. Aeris temperies, & aqua perquam salubris, & grata est. Nomen Schiraz, quod leonis ventrem significat Persis, ea de caussa huic urbi inditum est, quod, ut Golius in notis ad Alfraganium exponit, annona ad eam undequaque convehi, nihil vero inde exportari soleat.

Prope Schirazum in declivitate collis cujusdam, Allahekber dicti, vallis est, ubi fons scaturit, cui الله ruknābād nomen, ob aquam limpidissimam, & singularem loci ipsius amænitatem, & salubritatem a Persiæ poetis, ut L. B. a Reviczky in sua paraphrasi meminit, haud secus, ac sons Blandusiæ ab Horatio, celebratus. Sic enim præter ceteros Hasizius canit:

Porrige o pocillator! quod residuum est vini; neque enim in paradiso reperies

Ripam rivi Ruknabadi, aut deambulaera Musselæ.

Coronidis denique instar subjicere hic placet, quæ idem L. B. a Reviczky in urbis hujus commendationem affert: Hanc aliquis, ait, non male Persiæ Athenas vocaverit, tum, quod purissima lingua Persica, eaque peculiaribus idiotismis, ac elegantiis, quas grammatici gentis illius modos Schirazios vocant, luxurians, incolis ejus sit natiua, tum etiam, quod amæniorum, ac politiorum literarum domicilium dici mereatur. Plurimi sane sunt, neque facile enumerandi, eruditionis, & eloquentiæ laude in oriente clari scriptores, qui ex hac urbe originem traxerunt, sed inter ceteros notiores, neque nostratibus nominetenus ignoti poeta sunt, Sadi, & Hasiz &c.

Pag. 18.lin. Ubi, inito rursus cum præsecto provinciæ Farsiæ prælio, captoque duce, res ipsi ex sententia successit.

Hac a Jacubo Leisio gesta, Abulfeda ad annum ducentesimum quinquagesimum quintum sequentibus verbis consirmat: Occupavit Jacub, silius Leisii, Kermaniam, & Persidem deinceps, armis, cujus urbem principem, Schirazum, ingressus, justi per praconem omnes securos, & quietos esse. Et quamvis Chalifa has terras eriperet, ejus tamen clientem se prositebatur, eique tam literis, quam muneribus, qua splendidissima mittebat, testabatur obsequium. In quibus muneribus decem candidi falcones erant, & centum globi musci integri.

Pag. 19. lin. Anno ducenté simo quinquage simo septimo, iterata in provinciam 3. & seq. Farsiam incursione Jacubi, offensus Mutamid, Chalifa Bagdadensis, viros miserat, qui ex Jacubo quarerent, quid sit, quod in provinciam Farsia — — exercitum rursus educeret.

Abulfeda, eodem anno hanc irruptionem, nonnullis tamen mutatis, factam esse, dicit: Eodem occupabat Jacubus Soffar Balcham, & inde porro Kabulam; & alia inter spolia, obsequii documenta, mittebat Chalifæ simulacra numinum, quæ Indi divinis honoribus prosequi consueverant. Haud absimile donum ab Amru, fratre Jacubi, anno hegiræ ducentesimo octogesimo sexto Bagdadum Chalifæ submissum esse, mox e Mirchondio patebit; cum tamen Abulfeda anno hegiræ ducentesimo octogesimo sexto nullam rei hujus mentionem interat, censendum est, donationem idoli hujus ab utroque historico diversis fratribus, Leisii filiis, adscribi.

Pag. 19.lin. 10. & feq. Balcham - - ipsi concessam esse.

Urbs z balch, metropolis Chorosanæ, testibus Nassireddino, & Ulughbegio sub gradu longitudinis 101., & latitudinis 36. 41'. Ha.

gi Chalfe vero auctore sub longitudinis gradu 101. latitudinis 36. - & 30'. posita est. Idem literis consignauit, Balchæ regionem Tocharistanæ, Bedachschanæ, & Bammianæ continentem esse. Urbs vero antiqua, admodum ampla, planoque in loco explicata est. Fluvius ω, derūha, quem Golius, Ibni Haukelium secutus, code dehās compellat, eam prælabitur, tanto impetu decurrens, ut undis suis molarum rotas impellat. In aliis, quibus abundat, fructibus melones eminent, qui tantæ hic magnitudinis sunt, ut haud pluribus, quam quatuor portandis camelus sufficiat. Australes territorii huius limites Oxus alluit.

Lohraspum, antiquum Persiæ regem, Hydaspis patrem, ea tempestate hanc urbem condidisse, qua Hyerosolimas Nebucadnezar diripuit, Golius ex Jacuto in notis ad Alfraganium commemorat. Priscis temporibus pyreum celebre, behār dictum, atque a remotissimis populis frequentatum, hic loci extitit, cujus ædissicii rudera, Haği Chalfe teste, hodiedum extant. Hoc pyreum legabat samilia Barmekidarum, ex quibus oriunda soboles inde ab Ardeschirii tempore, nusquam interrupto ordine, apud Persiæ reges primorum consiliariorum munere sungebatur; in his Giafarus, Fazlius, & Jahjaus numerantur, Chalifarum Vezirii, quorum tanta liberalitas erat, quam vix quispiam deinceps adæquare potuerit.

Nominis originem nonnulli historici ab antiquissimo Persarum rege Kajamuras repetunt, qui, multo ante amissum fratrem, hic loci primum obviam nactus, pristino urbis nomini vocabulum Balch suffecisse dicitur, quod a ele balghūden i. e. amplecti derivatum est, propterea, quod fratres diu, multumque in mutuo amplexu hæserint. Alii, rem eandem narrantes, referunt, regem Kajamuras, fratre suo procul præter opinionem conspecto, exclamasse est bel achon i. e. imo frater est, indeque contractam vocem Balch proficisci. Verum fabulam hanc Arabicæ originis esse, indubitatum est, cum, Persidis reges minime tunc temporis Arabica, quam ignorabant, lingua uti potuisse, in propatulo sit. Cum veterum porro Bactris eandem esse Balcham, & aliquanta nominis similitudo, & ipsius situs comparatio suadet, uti Golius in notis ad Alfraganium

ganium præclare advertit; omnes enim geographi veteres consentiunt, urbem præterlabi sluvium, quem Strabo, Zariaspem, Curtius vero, Pliniusque Bactrum compellant, quemque suum ipsi quoque urbi nomen dedisse volunt; Bactras autem sub Parapamiso monte, Tauri, seu Caucasi parte, collocant. His omnibus plane similia sunt, quæ paulo ante de urbe Balch memoravimus. Hodiernum denique urbis nomen قية الاسلام kubettül-islam i. e. turris, seu fornix Islamismi in summæ venerationis testimonium illi impositum est.

Pag.19.lin. 14. & feq.

### Kabulum contendit.

Regio hæc, ab orientalibus unica alias voce كبولستان kabūlistān etiam dicta, a nonnullis Indiæ, ab aliis regno Zabelistan, & ghur adnumeratur. Parapamiso veteri respondere videtur, in cujus extremis fere finibus apud Ptolomæum similia nomina, Zuastena, & Goryea inveniuntur.

Metropolis, ejusdem cum provincia nominis, breviter ab Haği Chalfe hunc in modum describitur: longitudo illius gradus 105 cum dimidio, latitudo 33. cum dimidio obtinet; pone ripam fluminis exporrecta, frequentibus hortis, vineisque circumfepta est, & ab arce munitissima, ad quam una solum ex parte accessus patet, defenditur; denique a Moslemis partim, partim a Brachmana um affeclis, partim etiam ab Hebrais incolitur. Hujus urbis tanta olim erat existimatio, ut & sedem ibi figerent reges, &, nisi diademate hic loci infigniti, ceteris regibus haud adnumerarentur. Cum porro montibus, nive tectis, circumfusa, jam frigidiore, jam incalescente iterum aere utatur, nullos quidem dactylos, sed eo majorem gossipii, & croci copiam producit. Nec ferri fodinæ, & aloe in hoc terræ tractu desiderantur; mirabolana vero, Kabulensis alias nuncupata, non hic quidem procreatur, fuum tamen nomen ab hac urbe traxit, quod venditionis caussa huc primum ex India comportari soleret. Atque hæc quidem de urbe Kabulo memorasse sussiciat; de ipsa jam, ejusdem hujus nominis, provincia nil relatu dignum occurrit, quam, quod urbibus, vicisque refertissima, in quatuordecim ترمن tumen, seu no-

### Nischaburum se convertens.

72g.19.lin.

Præsenti quidem loco sacti hujus annum tacitus præterit Mirchondius, sed in superiore dynastia, ubi capti in urbe Nischabur mentio Mohammedis incidit, annum ducentesimum quinquagesimum nonum affert, cui sententiæ & alii historici subscribunt. Et Abulseda quidem ait: anno ducentesimo quinquagesimo nono potiebatur Jacub Sosfar urbe Nischabur. Quæ vero Elmacinus, & Haği Chalse in tabulis chronologicis in eandem rem afferunt, in superiore pariter dynastia pagina 104. & sequenti allata sunt. Mirchondius item superius post narratam Mohammedis captivitatem addit, regni optimates præsenti jam periculo ad Jacubum nonnullos submissise, qui veniam, & immunitatem suo nomine slagitarent.

Rem eandem nonnihil mutatis iis, quæ ad novi principis Jacubi Leifii commendationem faciunt, Huseinus quidam, Waez, feu præco cognomine, in egregio suo opere, de moribus proborum inscripto, capite vigesimo quarto, ubi de promissorum side præstanda agit, hunc in modum narrat: من المن وقت يعقوب بن ليث بده واو شهرها محاصره كرد نيشابور رسيد طاهر حاكم نيشابور بود باو باغي شد و او شهرها محاصره كرد اظهار دولت محدد طاهر در پنها في كتابتها به يعقوب فرستادند و در اظهار خلوص مبالغها نبودند مكر ابراهيم حاجب كه او هيم كتابتي نهر خلو وكسي نفرستاد وچون يعقوب به نيشابوررا كرفت و رعايا وحشمرا در ضبط وكسي نفرستاد وچون يعقوب به نيشابوررا كرفت و رعايا وحشمرا در ضبط قهه ياران تو كتابتها فرستادند و تو با ايشان موافقت نكردي ابراهيم كفت اي ملك مرا با تو سابقه عمونتي نبود كه تجديد آن عهد كردمي و نيز اي ملك مرا با تو سابقه عمونتي نبود كه تجديد آن عهد كردمي و از خود رخصت از محتد طاهر شكايتي ندارم كه طريق مخالفت سپردمي و از خود رخصت آن نيافتم كه حق و انعام و پرورش اورا بشكستن عهد و پيهان بر طرف داده

ديت

من نه آنم که سر از وفا بر تابم په و رچه سازند جدا چون قلم بند زبند یعقوب کفت تو لایت آنی که ترا تر بیت کنند و مستحق آن که سهم ترا ترشیت دهند

> مصرع آفرین بادبر وفاداران

بس اورا از جمله آن مردم بقبول و اقبال اختصاص داده و آنهارا که به نفاف جانب ولي نعبت خود فرو کنداشته بودند بانواع عقوبات و تعذیبات تلف ساخست

Illo tempore, quo Jacubus, filius Leisii, Nischaburum accesserat, Mohammedes, filius Taheri, huic urbi jura dabat; hic quoniam obsistebat, urbs obsidione cingebatur. Optimates regni Mohammedis clanculum literas ad Jacubum mittebant, quibus se totos illi obstringebant. Unus autem Ibrahimus Hağib erat, qui neque hujusce tenoris literas scriberet, neque quempiam ad Jacubum mitteret. Capta urbe, cunctoque populo cum optimatibus in deditionem accepto, Jacubus Ibrahim Hağib, ad se evocatum, ita allocutus est: quo pacto id accidit, ut, cum omnes amici tui literas ad me miserint, tu solus iis non consenseris? reposuit ad hac Ibrahimus: o Princeps! nulla mihi tecum prius intercessit consuetudo, quam renovare officii mei fuisset, neque cum Mohammede, filio Taheri, conquerendi mihi caussa est, ut, illi repugnare, conveniens mihi videretur; neque id etiam licere mihi putabam, ut, quidquid juris, gratia, ac favoris mihi tribuisset, violata side, penitus negligerem.

### Verfus.

" Ego non fum is, qui caput a limitibus fidelitatis retraham;

" Quamquam eam infringant alii, & catenas a catenis lacerent perinde, ac calamus meus diffinditur.

Ad hac inquit Jacubus, tu dignus es, quem colant omnes, quin mereris etiam, ut in concreditis tibi negotiis a me confirmeris.

Hemi-

### Hemistichium.

" Laus sit iis, qui fideles sunt in operibus suis

Hune igitur, præ aliis omnibus ad diversa munera admotum, singulari honore prosecutus est; illos contra, qui patrono suo minus sidos, Es refractarios se exhibuere, vario suppliciorum genere e medio sustulit.

Quod in provinciam Farsiæ, nullo pacto sibi concessam, exer- Pag. 19.1in. citum rursus educeret.

ars provincia Persiæ, quæ & toti regno hoc nomen dedit; unde eandem quoque Golius provinciam Persidem, & Gravius, Parthiam compellat. Auctore Haği Chalse sic denominata est a פּלים fārs, silio פֿלים nāsūr, silii של sām. Termini hujus provinciæ sunt: ad occasum Chuzestania, & quædam maris Persici litora; ad meridiem mare Persicum cum Hormuzo; ad septentriones montana regio של bilādi gebel dicta, & vastum illud desertum, hanc inter provinciam, & Chorosanam interjectum, & Ispahanum usque dissus sad ortum denique vicinis regionibus Kerman, & Segestan clauditur,

In summa & apud ipsum Mohammedem laude est hac provincia, ait enim: ان الله اختار خلقه من العرب قريشا و من العجم فارسا Quoniam præelegit Deus gentes inter Arabes Koraischitas, & inter Persas illos, qui sunt e provincia Fars. Hæc demum regio in binas partes, septentrionalem videlicet, & meridionalem secatur, quarum prior perpetuis montibus continetur.

Rebus bunc in modum confectis, Tabaristanam ingreditur, Pag. 19.1in. Hasanum, filium Zeidi, Alidam, bello petiturus.

Tabaristana stabiliisse, jam pagina 98. insinuatum est. Hæc autem anno ducentesimo sexagesimo a Jacubo gesta esse, Hagi Chalfe in tabulis chronologicis hunc in modum exponit: وتن يعقوب بطبرستان Subeunte Jacubo Tabaristanam, ipsus exercitus ob continuas pluvias atteritur.

Jam-

Pag. 20. lin.

# Jamque Saram Perveniens.

Drientalibus المارية sārī vel etiam المارية sārīe, ut Golius refert, in Tabaristana oppidum, quod a Nassireddino, & Ulughbegio sub gradu quidem 88. longitudinis, latitudinis vero 37. situm esse perhibetur; verum Haği Chalfe hoc oppidum in provincia Mazanderan, atque sub longitudinis gradu 88., latitudinis dimidio supra 37. collocat. A Tahmurazo, monarcha Persarum, conditum fertur, estque magnitudine mediocri, quatuor utpote orgiarum millia suo ambitu complectens. Frugibus ceterum abundat, & ab urbe Amela duorum, ab urbe Astrabat vero quatuor dierum itinere abest.

Pag.20.lia.

### Amelam movit Jacubus.

المسالم fecundum Golium interioris Tabaristana metropolis, a celebrioribus geographis longitudinis gradus 87, & 26'. latitudinis autem 36, & 15'. habere dicitur. Nassireddinus tamen, & Ulughbegius longitudinis gradibus 87, 20. minuta, & 36. gradibus latitudinis 35. minuta addunt. Haği Chalfe demum in urbis hujus descriptione longitudinis gradus 87. cum dimidio, & latitudinis 37. etiam cum dimidio statuit. Hæc urbs mediocris, maris litus occupans, Tahmurazo, uti & plures aliæ civitates, condita fertur. Adversus maris oram aere aliquantum tepidiore utitur; ut ceterum ab altera ejusdem nominis urbe, trans Oxum posita, distinquatur, المالة على عسوان عسوان ameli tabaristan, i. e. Amela Tabaristanæ vocatur. Huic denique urbi originem suam debet عبر طبري جرير طبري غير طبري غير طبري غير طبري قات تو توقع المعاددة المعا

Pag. 20. lin. Dum Mohammedes, filius Wasil Temimi, provinciæ Farsiæ præsectus, supremum ejusdem dominium sibi arrogaret.

Hanc eandem, a Mohammede, filio Wazilii, in Chalifam concitatam feditionem, Elmacinus anno ducentesimo sexagesimo primo pluribus exponit. Quare ad dilucidanda ea, quæ Mirchondius hic affert,

affert, integram Elmacini narrationem hoc loco subtexere juverit: وفي سنة احدي و ستين و مايتي كانت و قعات بين آلحبيب و بين محمد بن واصل قتل عامل آلعتمد على فارس و غلب عليها فضم آلعتمد فارس والدهواز والبصرة والبحرين الي موسي بن بوغا مع ما كان معه من عل "الشرف فجهز موسي بن بوغا عبد الرحمان بن مغلم الي الاهواز و ولاه اياها وضم اليه طسم التركي و كان محمد بن واصل مقيما بالاهراز على حرب الجيب فلما اتصلي به ذلك زحف الي عبد الرّجان و التقيا برامهرمز فظفر بن واصل بابن مغلم واسره فبعث المعتمد الي بن واصل في اطلاف بن مغلم و توجه الي اصطخر لحرب موسي بن بوغا فلما راي موسي شــدة اللمر وكثرة المتغلبين على المشرف سأل الاعفا من اعال المشرف فاعفي و Anno ducentesimo sexagesimo primo acie aliquoties conflixerunt Habibus, & Mohammed, filius Wafili, qui, occifo præfecto Persiæ Mutamidi, eam occupaverat. Sed præfecit Mutamidus Persia, Ahwaza, Basra, & Bahraina Musam, filium Buga, prater ea, quibus jam praerat in oriente, misitque Musa, silius Buga, in Ahwazam, Abdurrahmanum, filium Muflihi, eundem ei praficiens, eique adjungens Tisamum, Turcam. Erat autem in Ahwaza Mohammed, filius Wafilii, bellum gerens cum Habibo, qui, cum id intellexif-Set, processit contra Abdurrahmanum, & concurrerunt in Ramahormuza, vicitque filius Wasilii filium Muslihi, & eum cepit. At Mutamidus misit ad filium Wasilii, ut immitteret filium Muslihi, & profectus est filius Wasilii Istacharam, bellum illatum Musa, filio Bugæ. Cum autem Musa videret rei difficultatem, & corum multitudinem, qui captabant orientem, defungi voluit præfecturis orientis, iisque solutus, removit ab iis vicarios suos, & contendit Samarram.

## Musa, filius Buga.

P2g.21.lin.

ab Hottingero, aliisque jam observatum est, perperam Nugam appellat Erpenius, ex historia Chalifarum notus, atque e Turcarum q 2

familia oriundus, præcipua caussa interitus Muhtadi billah, Chalifæ; extitit.

Fag. 21.lin. Cui, Chalifæ voluntate, Bassoræ, Abwazi, Jemame, & Farsiæ gubernium commissium fuerat.

> affora, nostratibus etiam Balfora, orientalibus vero basra, urbs est cum ditione ampla, ad provinciam Yrakæ Arabicæ pertinens. Consentientibus Nassireddino, & Ulughbegio longitudinis gradus 84., latitudinis vero 30. complexa, extremum deserti occupat, quod inde ad Cæciam vergit, ut Golius in notis ad Alfraganium indicat. Ea de caussa a Chalifa Omaro condita perhibetur, ut Musulmani, Arabes æque, ac Persa eo confluerent. Duobus ad ortum milliaribus Basram præfluit Tigris, qui prope Euronotum currens, duorum circiter dierum itinere ab urbe in mare se se exonerat, unde Basra emporium finus Persici esse dicitur. Porro duabus infra eam parasangis in Tigrim نهر آلابلة nehrül-ebulet , i. e. annis Abullæ illabitur, qui inter Circium, & Corum medius decurrit, ab oppido, quod fecat, ita cognominatus; fluvio isti ad occasum Basræ & alius jungitur, duabus itidem, Omari justu, supra urbem parasangis ex Tigride ductus, cui ab operis hujus magistro nehri moakal i.e. نهر معقل بن بشار moakal ben besar nomen نهر معقل بن بشار fluvius Mokali inditum. Inter occiduam, & australem urbis hujus partem mons visitur, wild senām dictus; ea vero, quæ occasum inter, & septentrionem interjacet, terræ portio plana est; versus orientem torrentes non paucos reperire est, quorum ad octo millia antiquitus his in terris fuisse, narrantur. Celebris denique urbi palæftra literaria fuit, ob differentiam sententiarum in rebus grammaticalibus Kuftensem palæstram æmulam nacta, de quibus jam in commentatione de fatis LL. OO. pagina 23., & seq. plura allata sunt.

Provincia Basrensis, nunc temporis Ottomanico imperio subdita, anno hegiræ millesimo septuagesimo nono, teste Haği Chalse, præsectos primum acceperat, vulgo Passas dici solitos. Hæc provincia, ut Marsilius in tabulis suis imperii Ottomanici exhibet, septingenta crumenas aureas, i. e. tercenta quiaquaginta

millia

millia piastrorum pendit, qui Constantinopolim ad gazam publicam

" seconditions

deportantur.

Ahwaz, aut, ut Golius in notis ad Alfraganium wāz i. e. reğiones Ahwaza, quæ ad Susianam pertinent, quæve passim chūzistān apud orientales audiunt. Nomen regionis hujus quandam habere similitudinem cum binis iis apud Ptolomaum nominibus, Characene nimirum, & Cossiana, aut etiam Cissia, quæ extremas Susiana partes essiciunt, & in quibus hæc ipsa provincia Ahwaz sita est, idem Golius in laudato opere assirmat.

Diospolis vocabatur.

De Farsia nil hic dicere attinet, cum uberior jam supra pa-

gina nempe 121. illius mentio facta sit.

Motamidus Chalifa — — Memfikium cum instructo exerci-Pag.21.1in. citu Jacubo obviam misit, qui — — dolis militaribus, machi- 27. & seq. nationibusque — — Jacubum Leisium vicit.

Hæc pugna, ex qua Jacubus inferior discessit, ab Haği Chalfe in tabulis chronologicis ad annum ducentesimum sexagesimum secundum

dum commemoratur, ubi ait: انهزام یعقوب در جنگ موفق در واسط Devincitur Jacubus in pugna contra Mewfikium ad urbem Wait. Idem & Elmacinus memoriæ prodidit, verum, cum multis hæc historia Saracenica, uti alii jam adverterunt, erroribus scateat, ita hic quoque Alliti loco Elleis legendum est. Elmacini autem narra-و في سنة اثنتين و ستين و مايتي خرج آلمتعمد على الله : tio ita habet لغتال بن الليث و سببه ال ابن الليث كان قد تجبر و عصى و شق آلارض حتى اتى واسط فدخلها في جماذي آلاخرة فلما صار آلعتمد ببغداد ارتحل منها الي شيت و انتهض خلف بن الليث وولي عهده الموقف والله فالتقيا في شهر رجب فانهزم اصحاب بن الليث و استبلح الموفق عسكمه وخلص محمد ابن زاهم وكان مثقلًا بالحديد و توجّبه آلموذف في الثريعقوب بن ٱللَّيث ٱلصَّغَار ولم يكن ليعقوب همَّة اللَّا ٱلنَّجاة بنف\_\_\_ه Anno ducentesimo sexagesimo secundo exiit Mutamidus Ala allah oppugnatum filium Leis, hic enim, potens jam factus, & rebellis, terram pervaserat, donec venerat Wasitum, eamque ingressus erat in giumaza posteriori. Cum autem Mutamidus Bagdadum venisset, discessit illine Schütam; sed persecutus eum est Mutamidus cum socio faderis sui Muwasiko billah. Concurrerunt autem mense Regebo, &, in fugam versis militibus filii Leisii, spoliavit Muwasikus exercitum ejus, ac salutavit Mohammedem, filium Zaherii, qui ferramentis gravatus erat. Hinc Muwafikus persecutus est Jacubum, filium Leisii, Soffarum, qui solum de salvando solicitus erat.

Emir Jahjai, epitomator ille, jam toties laudatus, eodem quidem anno, verum non eodem mense hanc rem evenisse contendit, sicut ex his adjectis ipsius verbis patet: يعقوب هوس ملک عرب معتبد خليفه رفت معتبد برادر خود موفق راتجنک او کرده بجنک معتبد خليفه رفت معتبد برادر خود موفق راتجنک او فرستاد و بين الفرقين در مآلا رجب سنه يو اثني و ستين و مايتين در فرستاد و بين الفرقين در مآلا رجب سنه يو برخلق و تن يعقوب زدند و لشكر حدود واسط محاربه واقع شد و سه تير برخلق و تن يعقوب زدند و لشكر مقو مايتين رفت عدود واسط معاربه واقع شد و سه تير برخلق و تن يعقوب زدند و لشكر عرود واسط معاربه واقع شد و سه تير برخلق و تن يعقوب زدند و لشكر معتبد منهزم شد وي مخورستان رفت المعاربة واقع شد و المعاربة و المعاربة واقع شد و المعاربة واقع شد و المعاربة واقع شد و المعاربة و

tem gravis pugna suborta est. Jacubus tribus sagitis partim in guture, partim in ipso corpore sauciabatur; devicto denique Jacubi exercitu, ipse in Chuzestaniam referre pedem cogebatur. Nil quidem de celebri illa anni hujus pugna Abulseda memorat, sequenti attamen anno, sexagesimo scilicet, & tertio supra ducentesimum Ahwazam a Jacubo occupatam suisse significat.

Jamque magis numeroso exercitu, Bagdadum denuo ire con- Pag. 22.1in tendens, in itinere repente in morbum colicum incidit.

Annum, quo novum bellum adversus Chalisam concitans, repentina morte sublatus est Jacubus, silentio equidem Mirchondius premit, Haği Chalse vero annum ducentesimum sexagesimum quintum in tabulis chronologicis adsert; id quod & Emir Jahjai sequentibus consirmat: שׁבּפּי אִילָבׁ פּפּוֹב טֵלֹב עָלִב בֹּמֹת מֹפּוֹב עַלְבֹּי עַלֹב בֹּמֹת מֹפּוֹב בֹּעׁת פּפּוֹב עַלֹב בֹּעׁת Jacubus e morbo colico mortem oppetiit decima quarta luna Schewal anno ducentesimo sexagesimo quinto. Utrique & Abulseda in Moslemicis suis annalibus adstipulatur, dicens: Eodem (anno nempe ducentesimo sexagesimo quinto) obiit Jacubus Sossar, silius Leisi, decimo nono die mensis decimi, Giundisabura, in Ahwaza, e torminibus, spreto medicorum consilio, qui injecta clystere portione subducendam alvum suaserant.

Accidit, ut — — Chalifæ legati adventantes reconciliationis Pag. 22. lin.
literas — adferrent.

Ljusdem rei Abulfeda quoque post ea, quæ paulo supra allata sunt, his verbis mentionem insert: Eodem ipso tempore miserat Motamid cum legato literas, quibus ipsum (Jacubum) delinitum blandis verbis, sibique conciliatum, & ab Yraka, quam adorturum minabatur, aversum ibat. Sed magnum procul dubio malum manebat Chalifam, si vir ille diutius superfuisset. Nam, ut legato testatam animi sui constantiam faceret, advocabat eum jam æger, & monstrabat, quæ coram exponi juserat, gladium, & atrum panem hordeaceum

deaceum, furfuribus nondum purgatum, & cepas, mandabatque hac suo nomine ad herum ejus, Chalifam renuntianda. Si mori quidem sibi contingat e prasente morbo, futurum, ut eo sui otium Chalifa siat, metusque eximatur. Quod si vero cum bona valetudine in gratiam redeat, nullum fore arbitrum, qui caussas sibi communes dirimat, prater eum, quem monstrabat, gladium. Aliter, quam bello, decerni non posse, cujus fortunam si tam habeat adversam, ut victus a Chalifa fortunis omnibus excidat, decrevisse ad pristinam frugalitatem, ad panem illum atrum, & cepas, redire.

Pag. 22. lin. Princeps hic perspicacissimi erat ingenii, solertissimus justitia, ac liberalitatis cultor.

Principis hujus virtutes ab omnibus propemodum historiographis eximia laude exornantur; Sic Emir Jahjai dicit: בשפי יאלוני אוניי פישוני אוניי א

Præter ea, quæ ab historicis istis celebrantur, mira quæque de Jacubi gestis in aliis passim libris reperiuntur. Utque cetera prætermittantur, in libro, quem de moribus proborum inscripsit Huseinus ille Waiz, seu præco, alias jam nominatus, inter alia capite decimo tertio hæc leguntur: الله عنو المنابع المنا

که در آن شریك بسیار باشد آوردن جد من در آنست و جهد من براي آن كه خودرا برتبه وسائم كه كسي از انباي جنس من بامن شريك نـــباشد كفتند اين مهتي بسيار صعب است و كاري بغايت مشكل كفت من دانسته ام که شربت مرک چشیدنیست و بار فنا و فوات کشیدن آنکه در کار بلند تلف شوم به ازآن که در کاری پست بیرم لاجرم بدین جد و Jacub Leifius in operum suorum primordio pluribus se exposuit periculis, ea cumprimis deligens, quæ cum magno discrimine conjuncta erant. Omnem animi quietem spernebat, atque nunquam pratermittebat, rebus arduis se corroborare. Hinc, cum illi diceretur: tu, faber œrarius cum sis, quid est, quod tantis te periculis exponas? retulit ille, dolerem sane, pretiosam vitam in exercenda arte araria consumere, atque ea in re reliquos dies ponere, ubi mihi plures sunt socii; ego ad id potius enitor, idque ago, ut ad eum gradum perveniam, cujus nullus æmulus est. Ad hoc, cum responderetur, difficile hoc esse coeptum, multisque impedimentis involutum; novi equidem, reposuit, hoc idem esse, ac mortem degustare, atque ad regiones alterius mundi iter instituere; verum, melius est in magnis coeptis perire, quam in humili opere vitam finire. Tantis igitur ausis, conatibusque ad tam eximium gradum fibi viam stravit Jacubus.

### Præterea ligneum suggestum confici curavit.

Pag.23.lin.

Pag. 23. lin. Referebatur, Abu Jusuf, Jacub. Ibn Sosian, Chalifam Osmanum, filium Ufan, convitiis petere.

> x præsenti Mirchondii narratione palam sit, Abu Jusufum a Vezirio aperte eam ob rationem apud Jacubum principem defensum esse, quod nullis Chalifam diris impetierit, fed fanguinis tantum conjun-Stionem eum inter, & Mohammedem, Musulmanicæ religionis institutorem, in dubium revocarit; quod quidem historiographi, Mohammedis genealogiam texentes, neutiquam admittunt; erat enim Osmanus, ut Elmacinus advertit: بن عفان بن ابي آلعاص بن اميه بن عبدمناف filius Afani, filii Abulafi, filii Omia, filii Abduschemsi, filii Abdulmenasi; porro Abdulmenas iste secundum generis seriem, a Relando in tractatu de religione Mohammedanica descriptam, quartus Mohammedis avus erat. Herbelotius, de eadem lite, coram Jacubo agitata, narrans, rem, nescio, qua de caussa, paulo aliter exponit; Vezirium enim ea potissimum excusatione usum fuisse, inquit, quod Abu Jusufus sententiam istam non-Scholam hoc aliquantulum sapere, nenisi historice protulerit. mo non videt : scilicet, fin minus confilii, fati certe esse videtur, ut viri docti haud raro tanquam ex cathedra pronunciare aufint, atque, si quid minus arrideat, privatas etiam suas opiniones aliis obtrudere nil penfi habeant.

Pag. 24.lin. Omnes, quibus imperio potitus est Jacubus, undecim anni fuere.

Ad numerum annorum, queis regno Jacubus præfuit, quod attinet, huic & Emir Jahjai plane consentit, ita enim ille: سالت يعقوب دوازده سال Tempus, quo Jacubus imperium tenuit, erat duodecim annorum.

Defuncto Jacubo Leifio, frater ejus, Amru Leis, imperio Pag. 24.lin. potitus, legatos ad pedes throni Chalifa misit.

Lamrum Leisum in principatu successisse, atque anno quidem ducentesimo sexagesimo quinto a Chalifa confirmatum esse, Moslemici Abulfedæ annales sequentibus verbis sidem faciunt: Rebus humanis tandem exemto (Jacubo) succedebat frater, Amru, filius Leihi, qui, quam primum ad imperium accedebat, obsequium per literas Chalifæ deferebat, comitatisque præmium, præfecturas Chorasanæ, Isfahanæ, Segestanæ, Sendiæ, & Kermaniæ ferebat, a Mewfikio, Chalifæ fratre, & per orientem legato, qui mandatæ codicillos auctoritatis, & chlamydes mittebat. Nec minus Emir Jahjai, hunc, mox a fratris morte imperium capessivisse, publicisque precibus Bagdadi a Chalifa cohonestatum fuisse, scribit; verba و کار او عروج تام یافت بر خراسان و عراف و فارس و : illius hæc funt سیستان و قهستان و مازندران و غزنه مستولی شد و در بغداد بنام او خطبه کردند و پیش از آن در خطبه جز نام خلیفه در دعا ذکر نکردندي Attigit felicitas Amru Leisii summum fastigium; Chorosanam quippe, Yrakam, Kermaniam, provinciam Fars, Siftaniam, Kuheftaniam , Mazanderanam , Ghaznam suo imperio subdidit; quin Bagdadi etiam in publicis precibus mentio nominis illius fiebat; id quod antea soli Chalifæ reservatum erat.

## Ipse vero Kazminum - - contendit.

Pag. 24.lin.

Azwin, ut Haği Chalfe in opere geographico memoriæ prodidit, provinciæ Yraki æğem metropolis, a Nasireddino, aliisque geographis ad Persiæ provinciam εξεν biladül-ğebel refertur, a Nasireddino, & Ulughbegio sub longitudinis gradu 85., & latitudinis 37. collocata. Sunt, qui volunt, teste Golio in notis ad Alfraganium, urbem Kazwin veterum este Arsaciam, ab Arsace, sive Scytha, sive Bactriano, regni Parthici conditore, Parthis ita dictam, nam apud Græcos, Ragejam compellatam este, Strabo libro r 2

undecimo contendit. Haği Chalfe, Hemdalahii, scriptoris Persa, patria Kazwinensis, auctoritate nixus, Schaburum, silium Erdeschirii, atque Persidis monarcham, ubi Graci imperatoris vinculis

exemtus effet, urbem hic loci extruxisse afferit.

Urbis hujus torrentes, folutis nivibus potissimum, & imbribus nati, æstivo tempore rariores sunt, sin vero crescere eos contingat, magna sæpe vicinis domibus pericula minantur. Omnis propemodum generis fructus, sed uvæ inprimis, & pepones gratissimi hic loci odoris sunt, cameli quoque earum partium majorem in modum celebrantur. Postremis hisce seculis urbs hæc Persiæ regum, præcipue Schah Tamasbi, & Schah Abbasii, sedes erat; plurium itidem, & doctrina, & scriptis clarorum, ac nobilium virorum patria suerat, in quibus apprime memorandi doctus ille antistes والعلى المحافظة المحافظة

Pag. 24. lin. 21. & feq.

### Quo devicto primum Istacharum.

المرابعة التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة من الابنية حتى يقال انها من على التار عظيمة التار على التا

Cum vetustissima ibidem ingentium substructionum rudera visantur, mira quæque de urbis conditoribus, ejusque possessoribus narrantur: cujusmodi illa est Haği Chalfe in opere geographico relatio, ab antiquissimo Persidis monarcha urbem hanc condi coeptam,

atque

atque filii nomine compellatam esse, a rege Huschenkio dein magnis incrementis auctam, Gemschidii demum opera metam attigisse. Urbem præterea cum districtu ad eam pertinente in planitie explicatam, tantæ tunc temporis molis suisse, ac amplitudinis, ut longitudo ejus ad quatuor, latitudo ad decem facile parasangas patuerit. Hinc, præter quatuor fortissima munimenta, sata, & vicos complures in ditione urbis huius conclusos suisse, nonnulli asserunt.

Hodie præter ruinas nil admodum conspicitur, in quibus rudera illa o lio Jes gihil minare i. e. quadraginta turres dicta, reginæ كاك humāi, filiæ بهن behmen, palatium fuiffe, dicuntur, licet altiorem alii, & fanctiorem structuræ hujus originem quærant, in quibus Zekerija ben Mahmud eminet, qui in libro جايب آمحلوقات àgaibül-mahlukat has ædes Salomonem incoluisse, prædicat, ait دار آلملک سلیمان است علیه آلسلام و لشکر کاه وي بود و در بارکاه : enim اصطخر سرابردهء وي بود هزار ميخ زرين باهزار طناب ابريشين و صدطبل زرين بنوبت زدندي Erat regia Salomonis, supra quem pax, ubi cum exercitu consedit, & ante aulam suam tentorium expandit, quod mille funibus, ex serico contortis, in mille palis, auro conflatis, firmatum erat, certisque vigiliarum interstitiis aurea tympana pulsa-Plures hac de re fabulas contexit auctor, quæ tamen haud majorem fidem merentur, atque illæ, hic loci olim in medium a quodam Bedik allatæ, qui hujuscemodi commentis aulam Perstcam depingere adlaborabat. Verum quis decantatis hujus generis fabulis aures præbeat?

Ab justachar, quæ apud Græcos passim Persepolis audiit, uno circiter milliari Africum versus Bendamir sluvius abest, Araxis nomine a Curtio descriptus, qui ea parte, ut Golius in notis ad Alfraganium innuit, ponte jungitur, qua iter est in Choromitrenam, & Parthiam, sive Chorosanam, a cujus nomine & ipse pons compellatur.

Pag. 24. lin. Quinquaginta minas musci, quinquaginta minas ambræ, du-24. & seq. centas minas ligni aloe.

> Cum frequentissimus ambræ, & aloe in oriente usus sit, præcipuum hæ socum in muneribus semper obtinent. De ambræ origine diversas orientalium traditiones, oppido sabulosas, legere est apud Gentium in commentatione ad sequentem versum, ubi Sadi ambræ præstantiam extollit:

Aliquantum terræ odoriferæ in balneo quodam die Pertigit ex manu dilectæ in manum meam. Illi dixi, tu aut muscus, aut ambra es, Ex tuo enim odore, cor accedente, sum ebrius.

Idem Gentius in notis ad rosarium politicum aloe Mendelinum nobilissimum omnium, & bonitate ceteris longe præstantius esse scribit, cujus, prunis impositi, virtus maxime innotescit; quare Sadius in eodem rosario politico capite tertio, Gentio interprete, ita canit:

فضل و هنر ضعیفست تا ننهایند 🍰 عود بر آتش نهند و مشک بسایند

Præstantia, & ars inania sunt vocabula, nisi in forum producantur, Aloe igni imponunt, muscumque terunt.

reg. 25. lin. Zeid, filius Muchaled, — ex urbe Waset versus Farsiam contendit.

aset إلى Yraka Babylonica urbs, inter Bassoram, & Bagdadum, a Nassireddino, & Ulughbegio longitudinis 81, & 30'. latitudinis 32. cum 20'. obtinere dicitur. Mediam urbem Tigris sluvius dirimit, ita, ut navali ponte jungatur. Anno hegiræ octogesimo quarto ab جاح بن يوسف تغني hagiāg ben jūsuf sakifi extrui coepta,

coepta, ejusdem hegiræ anno octogesimo sexto ad sinem perducta est. Waset, medium apud Arabes significat, quare hæc urbs mediurbium apud nos compellari posset, cujus denominationis caussam ex Hagi Chalse hic subjungere visum: مبب تسميه بودر كه بصره ايله عبدان و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون كه وسطيدر و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون كه هر طرفون الله فرسخور كه بعدار و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون كه هر طرفون الله فرسخور كه بعدار و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون كه هر طرفون الله فرسخور كه بعدار و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون الله وسطيدر و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون الله وسطيدر و كذلك بغداد و كذلك اهواز ايله كوفه كه هر طرفون الله وسطيد و لاه بعداد الله وسطيد و الله الله الله وسطيد و الله الله و الله الله و الله و

Quæ res cum ad aures Memfikii pervenisset, bic prius, quam Pag. 25. lin.

Amru in Schiraz considere posset, eo movit.

De omnibus, quæ Mirchondius hoc loco de Chalifæ, & Soffaridarum principis, Amru, lite, eorumque præliis refert, historici Arabes, aliique adhuc laudati auctores, altum silent. Id unum igitur monendum hic restat, ante hegiræ annum ducentesimum septuagesimum octavum hæc omnia accidisse, id, quod ex eo manisestum sit, quod Elmacinus hoc eodem anno Mewsikium e vivis excessisse dicat. Verba illius hæc sunt: الموقف بالله يوم الاربعا احدى و عشرين من شهر الصغر و سيرته كان والت الوقف بالله يوم الاربعا احدى و عشرين من شهر الصغر و سيرته كان شجاعاً والما مام مام مام مام والمام وال

Pag. 25.lin. Namque in publicis precibus nominis Mohammedis, filii Zeidi, de gente Alidarum, mentionem fieri voluit.

Hic Mohammedes ex Alidarum dynastia erat, quæ, ut jam pagina 98. indicatum est, in Tabaristana sedem sixerat. Hunc anno ducentesimo septimo, Amru imperium abdicare coasto, infelici morte occubuisse, Abulfeda in annalibus Moslemicis ad eundem annum hisce verbis meminit: Sic domiti Soffarida fama illectus, invadebat Chorosanam, prada, quam vacuam autumabat, inhians Mohammedes, filius Zeidi, Alida, Tabaristana dominus. Verum acri pralio susus, sugatusque ab Ismaele Samanida, paucis post diebus, ab acceptis non paucis vulneribus expirabat. Filium ejus, Zeidum, nactus in acie captivum Ismael, honorisice tamen habuit, & rursus in libertatem dimist. Erat iste Mohammedes, Alida, princeps ingenii, morumque suavitate nobilis, pangebat carmina, & dignam laude vitam exigebat, divina misericordia dignus.

P2g.26.lin. Turmam, ex Chorosan ad loca sacra peregrinantem.

bem

bem congregantur, & Medinenses quidem (codem Bobovio auctore) collocantur in loco dicto as giahfet; Yrakienses, & ipsis aggregati, in loco, dicto ات عراف عمل zātī yrak; Negdienses, & illis aggregati, in loco, dicto ; karn; Jemamenses, & illis aggregati, in loco, dicto elem. Præter hunc insuper diversum ad diversa loca peregrinantium populorum confluxum id quoque notatu dignum, quod Bobovius initio tractatus hujus præmittit, nimirum: una pars peregrinantium, scilicet Europæi, & Asiatici (i.e. Natolia populi) congregari solet in Damasco: altera pars, scilicet Africani, in Cairo: tertia in Zebid: (Arabiæ oppido prope mare rubrum) Arabum, & infularum India populi faciunt quartam: Perfarum, & Chaldeorum, & Tatarorum Mogulensium, & ex Uzbek peregrinantes, conveniunt Babylonia in Chaldaa. Et illud hic haud prætereundum, ob peregrinationem hanc, & jus facrum templum ingrediendi sæpius Persas inter, & Turcas posterioribus temporibus lites subortas esfe, ita, ut Schah Nadirii tempore in pace, cum Turcis postremum sancita, singulari articulo hac de re peculiaria quædam cauta fint.

Cum imperium — — Transoxanæ — — nomini Amru Lei- Pag. 26.1in. fii inscriptum esset.

ransoxana regio, orientalibus مار الآني ma werain-nehr, id, quod transfluvium est, dicta, a Persis توران tūrān, a tūr, silio Feriduni, hujus olim regionis principe, nuncupatur, ut pluribus jam pagina 53., & seq. expositum est. Fines hujus provinciæ sunt ad occasum Chorazmia, ad ortum consinia Indiæ, ad austrum Oxus suvius, qui a limitibus provinciæ Bedachschan usque ad limites Chorazmiæ eam terminat; Oxus enim ut plurimum ab ortu in occasum fertur, licet (teste Abulseda in provinciæ hujus descriptione) hinc inde jam in orientem, jam in septentrionem magis deslectat. Ad aquilonem denique Turkistaniam contingit hæc provincia, binis insuper sluminibus عدد وود ود المعتمد و المعتمد و المعتمد و المعتمد والمعتمد و المعتمد و المع

Haği Chalfe, a quo præsens descriptio deprompta est, eam in septem قومنة tumanet i. e. nomos distribui, ait, quorum singuli, eodem auctore, decem militum millia, ad bellum semper parata, numerat. فالله buchārā, & عرفند samarkand præcipuæ hic urbes sunt.

P g.26.1in. Mohammedem, filium Beschiri, — cum exercitu adversus
20. & seq. Ismaelem, Samanidam, iis regionibus præsectum, misit.

Pag. 27.lin. Ismael, trajecto quantocius Oxo, — exercitum in aciem explicuit.

Daus fluvius, Persis ab anu, & alias gethon etiam dictus, in ipsis adeo sacris paginis jam celebratur, cum quaternis nempe iis fluminibus, in paradiso oriundis, adnumeratus. Gracis, & Latinis Araxes audit, qui, modo Armenia, modo Scythia litora oberrans, undis subinde cum Cyro flumine conjunctis, circa 40. latitudinis, & 85. longitudinis gradum in mare Caspium se pracipitat, quemque Arianus libro 8. de expeditione Alexandri in maximorum Asia fluminum numero ponit.

Araxis nomine in geographia itidem Mosis Choronensis occurrit, quo auctore, Armeniam majorem ad austrum terminat; hujus autem Armeniae limites, quo & verba ipsius adjiciamus, hunc in modum, Whistonio interprete, Moses describit: Armenia major ab orientali Cappadocia, & Armeniae minoris parte apud slumen Euphratem, prope Taurum montem jacet, qui ipsam a Mesopotamia dividit; a meridie a Syria continetur, & se prater Atropatiam, & Mediam slectens, usque ad eum locum pertinet, quo Araxes in Caspium

Caspium mare influit. A septentrione Albania, Iberia, atque Egeria sines contingit, atque ad eum locum patet, quo Euphrates meridiem versas inslectitur.

### Amru - - viam denuo ab Indo fluvio repetiit.

Pag. 27.lin.

ndus fluvius nonnullis orientalibus آب āb hind, Persis vero præcipue peng ab i. e. quinque fluvii nuncupatur, cujus etiam nominis Teixeira in relationum suarum libro primo capite 22. mentionem facit, ipsam etiam provinciam eodem nomine præditam esse, assirmans, propterea, quod quinque ibi slumina conjungantur. Græcis item antiquis, & Latinis Indi nomine notum suisse hunc sluvium, Livius historiarum libro quadragesimo quinto capite 9. manifestum sacit, inquiens: Arabas Hind, Indiamque, qua terrarum ultimus sinis rubrum mare amplectitur, peragravit; nec minus Curtius libro octavo, capite 9. Indum, & Gangem in rubrum mare se exonerare scribit.

Plura hoc flumen animalium rapacium genera, ut crocodilos, incolere Haği Chalfe literis confignavit. Ex Keśmiræ denique montibus effusus Indus, in suo cursu viginti, & amplius flumina

absorbet.

In nonnullis historicis perhibetur — — Ismael Samanida a Pag.27.lin.

Moatesido Chalifa — — inductus fuisse, ut cum decem virorum

millibus — — Oxum trajiceret, bellum Amru

Leisio illaturus.

no ducentesimo septuagesimo nono vitam cum morte commutante, summam rerum ejusdem provinciæ in Ismaelem transtulit.

Pag. 28.lin. Ismaeli, nullo profuso sanguine, cumulatam obtigisse victoriam, toto Amru Leisii exercitu in deditionem accepto.

Anno ducentesimo octogesimo sexto ab Ismaele devictum fuisse Leisum, in tabulis chronologicis hisce verbis Haği Chalfe innuit: انهزام عمو بن لیث از اسعیل بن احد سامانی در جنک ماوراءنهر و اسیر شدن او Amru, filius Leisi, ab Ismaele, filio Ahmedis, Samanida, devincitur in partibus Transoxanis, & in captivitatem se dedere cogitur. Contra Abulfeda, hæc adversus Amru Leisum ducentesimo octogesimo septimo anno ab Ismaele gesta esse, sequentibus affirmat: Chorosana potiebatur Ismael, filius Ahmedis, Samanida, dominus Transoxanæ, debellato, & capto ejus, qui ad eum diem fuerat, domino, Amru, filio Leisi, Soffaro, qui a victore Bagdadum missus ad Motuzadum, in carcerem suit abditus, in quo peremptus est anno ducentesimo octogesimo nono. Eundem hunc ducentesimum octogesimum septimum annum & Emir Jahjai affert, qui, qua ratione Ismaelem inter, & Amru debellatum sit, ita com-عرو طمع در خوزستان و عراف عرب کرد و با معتصد خلیفه : memorat طریف منازعت سپرد اسمعیل سامانی را که والی ماورآه آلنهر بود بحنک عمر و أمر فرمود و امير اسعيل از آب آمو كذشته با دوازده هزار مرد بباح آمد چون فریقین صف بیآراستند و طبل جنگ فرو کوفتند اسب عمرو لیث نشاط کرد اورا در ربود ومیان لشکر اسمعیل سامانی آورد و بی جنک کرفتار شد و این صورت در متنصف ربیع الدخر سبع و شمانین و مايتين واقع بود Amru posesioni Chuzistaniæ, & Yrakæ Babylonica inhiarat, quam ob rem in lites cum Chalifa incidit; is enim Ismaelem Samanidam, provincia Transoxana prafectum, Amru Leisio bellum inferre just, qui, trajecto flumine Oxo, cum duodecim millibus militum Balcham pervenit; dum itaque, explicatis utrinque militum ordinibus, tympana pulfarentur, equus Amru Leisii subsilire primum, tum herum uno impetu secum rapere, & in inimicum Ismaelis Samanida exercitum inopinate inferre coepit, adeo, ut' absque

absque ullo conflictu captivus redderetur. Id quod accidit sub medio lunæ rebbiūlachir anni ducentesimi octogesimi septimi.

Petitque, modicum quid ad comedendum sibi pararet.

Pag.28. lin.

jusdem historiæ cl. Cardonne ex نكارستان nikāristān i. e. porticus, tabulis pictis exornata, dicto, in sua literaturæ orientalis collectione parte fecunda meminit.

De obitu viri bujus varia narrantur.

Pag. 29.lin.

Lbulfedæ de obitu Amru narratio paulo superius pagina 140. allata eft; Emir Jahjai vero de eodem hæc habet : المعيل عرو ليثرا مقيد بنزد خليفه فرستاد خليفه اورا محبوس كرد دو سال در حبس بود و در وقت وفات معتضد خليفه اورا در حبس فرامش كردند و از كرسنكي Ismael Amrum Leisum, catenis oneratum, ad Chalifam miserat, qui eum in carcerem conjecit, in quo per biennium perstitit, quoad nempe Matazidus Chalifa supremum diem obiret; tum demum ex oblivione neglectus, præ fame periit.

In chronico itidem, fabrica mundi inscripto, refertur. Pag.30.lia. 8. & seq.

ta chronicon isthoc, a Mirchondio تاريخ بناكتي tārīch binākitī inscriptum, compellari eo minus dubitandum, quod id & ipsa historiæ hujus verba, & laudati auctoris præfatio, ubi scriptorum, queis in concinnando opere usus est, seriem enumerat, confirmare videantur; siquidem chronici istius auctorem in eadem præfatione hunc in modum indicat : تخرآلدين ابي داود بن سليمان صاحب آلبناكتي fachred-din ābī dāūd ben soleīmān auctor elbinākitī, i. e. fabricæ mundi. Sane quam opportune accidit, ut, hifce observationibus occupato, catalogus codicum manuscriptorum orientalium, a Frasero quondam Londini editus, in manus incideret, qui & auctorem, & inscriptionem libri, quin ipsam etiam totius operis dispositionem

In ipfo porro opere historico genealogiæ primo patriarcharum, & prophetarum ab Adamo ad Abrahamum continentur, tum antiquorum Persia monarcharum historia, quæ a Cajamuraso inchoata, cum Jezdegirdo, filio Schechriar, ultimo ante inductum in Perfiam Islamismum monarcha Persia, definit; hanc celebrium virorum, & clarorum iis temporibua philosophorum notitia excipit, genealogia itidem, & nativitas, vitaque Mohammedis cum historia quatuor priorum Chalifarum, aut Mohammedis successorum; cui duodecim Imam, seu antistitum, & reliquorum Chalifarum res gestæ ad Motezemum billah ufque, ultimum ex Abasidarum familia Chalifam, subjectæ sunt. Mox variorum principum, qui in Persia, & Tataria a primo usurpatore, Jacubo, filio Leisii, ad Chawerschahium regnarunt, commemoratio historica sequitur. Neque monumenta Hebraorum prophetarum, & regum Ifraelis desideres, siquidem hæc a Mosis temporibus ad tempora regis ultimi Mattina, nominati Nabonassar, Sedekias in eodem chronico occurrunt, queis Chriftianorum, & Europæ populorum historia cum genealogia B. Mariæ Virginis, a Davide deducta, subjungitur. Pari ratione in hoc chronico & eorum regum, imperatorum, & Romanorum antistitum annales reperire est, qui a tempore Messia ad annum hegiræ feptingentesimum decimum septimum vixere. His descriptio, & historia India, hujusque regum subnectitur, cum Peschtiv rege coepta, cum Alaiddino vero terminata. Chatajæ porro historia a tempore Nikupadischahii ad Altunchanum deducta exhibetur, quocum Gengischano, ejusque successoribus diuturna bella fuere, & quorum tempus

tempus omne, quo Chatajæ præfuere, 42,875. annorum spatio, id testantibus propriis regni hujus historiographis, definitur. Sub sinem res Mogulensium, itemque origo Gengischani, hujusque expugnatio Persiæ narrantur, atque omnia demum cum historica siliorum, & successorum hujus notitia, ad vigesimam quintam mensis Schewal diem anni hegiræ septingentesimi decimi septimi deducta, terminantur.

Jusserat Amrus quodam tempore exercitum suum se coram Pag.32.lia. consistere, arma, & equos lustraturus.

Randem, quam Mirchondius alias inter hic refert, historiam Perfa quoque ille eruditus منال جامي menlā giāmī in libro suo, بهارستان behāristān i. e. tempus vernum inscripto, capite sexto exhibet; verum minus caste, quam Derwischium, in viris piis apud suos numeratum, deceat. Duo tamen tetrasticha, quin aures offendantur, adjungere hic licebit, queis poetarum more (& poetam enim insignem suisse, ex anthologia Persica constat) maciem equi miris coloribus depingit. Primum itaque tetrastichon ita habet:

زین لاغر اسبکی که هانا نیافتت \* جزاز عظام جوهر ترکیب او نظام هچون خر عزیز عظام آمده بهم \* لیکن هنور کوشت نروییده از عظام

Hoc equello magis macilentus haud invenitur, Præter offa nil illius pretiofam constitutionem format.

Quemadmodum offa afini Mohammedis, dum iterum in unum conjungebantur;

Verum caro desuper nondum creverat.

Ad versus posteriores intelligendos nosse oportebit, Moslemis per manus quodammodo traditam esse opinionem, Mohammedis asinum post centum annos a Deo ad vitam denuo resuscitatum, & in paradisum translatum suisse.

Alterum tetrastichon, quo macilentus item equus describitur, hoc est:

Ita macilentus equus erat, ut si perquiras, Nullum vestigium carnis in eo reperias; A capite ad ungulam si illum excoriaveris, Præter cutem supra ossa nil invenies.

Hanc historiam ex Giami reddidit Gallicam cl. Cardonne, eamque, sed magis verecundis adumbratam coloribus, literaturæ Orientalis collectioni inseruit.

De eodem principe Soffarida, Amru Leis, & aliud, haud minus memoratu dignum, in Saadi rofario politico capite 1. legitur, ubi miles transfuga, Vezirii consilio, morte plectendus, coram Amru Leisio ita fari occepit:

امّا ببوجب آنكه پرورده في اين خاندانم نخواهم كه در قيامت به خون من كرفتار آيي أكر بيكناه بنده را تخوافي كشت باري بتأويل شرعي بكش عرو كفت تأويل شرعي چكونه است كفت اجازت فرماي تا من وزيررا بكشم انكاه مرا به عوض بكش تاكت كشته باشي

quod cl. Gentius sic interpretatur:

, Quicquid capiti meo acciderit, si tibi libuerit, sas erit:

. Mancipium enim quomodo contenderit; cum domini sit judicium?

Cum vero domesticus ædium harum sim alimnus: nolim profečto, ut in extremo resurrectionis die, propter cruorem meum ad supplicium rapiaris. Si hunc servum tuum trucidare omnino volueris, tum saltem aliqua sacri juris specie, nomineque interficias: ne in extremo judicio supplicio afficiaris. Rex inquit: quanam est illa juris species? respondet ille: mihi permittas primum proregem (Vezirium) interficiam, deinde vindicta illius de me supplicium sumas, ut me jure interfecisse dicaris. His perterritus Vezirius, veniam rex militi concederet, rursus rogavit. Unde Saadius suo more sinem historiae peracuto disticho imponens ait:

چو تير انداختي بر روي دوشمن 🏶 حذر کن اندر اماجش نشستي

" Dum sagittam in faciem inimici ejaculatus es,

" Cave; nam pro scopo ejus te exposuisti.

Amru Leisio — in captivitatem delapso, optimates, no-Pag.32.lin.
bilioresque Sistania viri Taherum ad thronum evexere.

عمان مان مهم المان الما

#### Chronicum, feries rerum nuncupatum.

Pag.33.lin.

affert, seriem texit, chronici hujus conditorem الموالفي بن المجوزي abuül-fereğ benül-ğiūzī appellat, quem Herbelotius Abulfarağium, filium Ali, filii Giuzi, nominat, qui anno hegiræ quingentesimo nonagesimo septimo vita functus est. Summa hujus doctrina præcipuam laudem habet; atque Omaddidinus quidem, neminem facile tot, tantisque momenti rebus coram adfuisse, memorat; hunc utpote & Saladinum illum, nostratibus minime ignotum, & alios ejusdem familiæ principes in bellicis ipsorum expeditionibus comitatum suisse.

Pag.34.lin. Anno ducentesimo nonagesimo sexto, Taherum inter, & Segbe9. & seq.

rum — — exortæ lites bello tandem compositæ sunt, in
quo Taherus succubuit.

Ad annum, hic allatum, quod attinet, Haği Chalfe in tabulis chronologicis his verbis Mirchondio plane assentitur: انهزام طاهر طاهر, Taherus, Soffarida in prælio, cum Senkeri inito, in provincia Fars devincitur. Non uno tamen modo libertum Amru appellant: של sekberi enim Mirchondius, contra Haği Chalfe של senkeri scribit, ut adeo haud equidem liqueat, uter erroris insimulandus sit.

Pag. 34.lin. Tempus regni Taberi sex annorum nonnisi spatio definitum fuisse.

Alium

Alium quempiam, nomine Leisium, filium Ali, filii Leisii, Pag. 34.1lin. simul cum fratre Maadil per dies aliquot potentiam quampiam, & regni fastum ostentasse.

aulo diversa in epitome Mirchondiana historia universalis videre licet; hujus siquidem auctor, ubi familiæ Soffaridarum historiam cum Tahero, filio Mohammedis, filii Amru Leisii, terminat, brevem itidem de binis iis principibus, Leisto nimirum, filio Ali, & Maadil, quorum exigui temporis imperium fuerat, mentionem injiciens, in eo pariter a Mirchondio differt, quod Maadilum affinem Leisii nominet, Mirchondius contra hos ambos principes fratres fuiffe afferat; fed jam ipfa laudati epitomatoris verba fubjice-باتعاف اکابر و اعیان طاهر در سیستان بعد از کرفتار شدن : re lubet عرو پای برتخت حکومت نهاده در سنه و تانین لشکر بر فارس کشید و برآن دیار استیلا یافته تجانب سیسنان باز کشت و در تسعین و مايتين سنكري غلام عرو بن ليث برطاهر خروج كرده مهم أحاربه انجامید و سنگری غالب کشته طاهررا با برادرش اسیر کرده بدآر الحلافت فرستاد مدّت سلطنت طاهر شش سال بود و بعد ازانقضاء حکومت او برادرش معدل وعم زادهء ليث بن على ليث جند روزكر و فري كـردند الما همچدم بهادشافی نرسیدند Unanimi confensiu procerum, & primorum regni, capto Amru, Taherus Sistania thronum conscendit. Anno octogesimo nono exercitum in provinciam Fars ducebat, &, expugnatis illis tractibus, Sistaniam versus pedem movit. no ducentesimo nonagesimo Sengerus, libertus Amru, filii Leisii, contra Taherum seditionem movit; res igitur ad pugnam devenit, ubi Sengerus victor Taherum, cum fratre captum, Bagdadum ad Chalifam transmiferat. Erat autem tempus regni Taheri sex annorum. Finito Taheri regimine, frater illius Maadilus cum affine Leisio, filio Leis, potentiam quampiam, & regni fastum per aliquot dies oftentarunt; verum nullo unquam tempore ad ipfum regnum pervenerunt. Hæc ipfa ceterum videri possunt in laudato codice manuscripto, qui bibliothecæ nunc Cæfareæ, olim vero, ut ex nova Lambecii editione tomo primo, pagina 375. apparet, Tengnaglianæ collectionis fuerat, cujusve & Schikardus in Tarich suo ad paginam 51. meminit.

Amru

Pag. 35. lin. Amru itaque, ad regnum evectus, Mansurum, filium Ishak, catenis vinctum, arce concludi justi.

Eundem hunc annum tercentesimum, quo Amru, silius Jacubi, rerum in Sistania potitus est, Haği Chalse etiam indicat, dicens: استلاء عرو بن يعقوب صقاري بر سيستان و محصوريء او از آل سامان Amrus, silius Jacubi, Sosfarida, Sistaniam occupat, verum postea a familia Samanidarum obsidione premitur.

Pag. 36.lin. Cum Amru, filio Jacubi, Ebni Chafarum secum Bucharam duxerat.

עם באלונים באלונים ליים באלונים באלונ

scriptas.

Buchara, ex præcipuis Transoxanæ provinciæ urbibus, secundum Golium in notis ad Alfraganium magis ad occidentem vergit, si climatis seriem spectes, quam Balcha, & Samarkanda. Idem longitudinis gradus ab insulis fortunatis 96. & 50'. latitudinis vero 39. & 50'. numerat; Nassireddinus vero totidem longitudinis, latitudinis autem 39. gradus, & Ulughbegius denique longitudinis gradus 96. 30'. latitudinis 39. 50'. urbi huic tribuunt. In planitie posita, undequaque pratis cingitur, quodque ad loci amoenitatem addit plurimum, diversis etiam æstivis vicinia omnis exornata est. Urbi ipsi pulcherrima ædiscia, & vastus murus, per quem septem portæ patent, splendorem afferunt. Territorii urbis & longitudo, & latitudo simul duodecim parasangas essicit.

Inde quoque egregiam hæc urbs adepta est gloriam, doctifsimorum quod virorum patria sit, in quibus cumprimis Avicenas

fama

fama inclitus est. Suburbium fluvius osoghd. hortos, (ut Golius dicit) & agros rigans, præterlabitur. Hic vero Soghdus, ejusdem provincia Soghdiana nominis fluvius, eodem Golio teste, unacum ceteris aquis in montofa, ac frigida Ferganæ parte, butum dicta, & novem a Buchara dierum itinere disjuncta, nascitur. Urbis hujus in oda secunda Hafizius meminit, ubi canit:

Si formosus ille Schirazius in manus sumeret cor meum (gratum haberet)

Navo ejus nigricanti donarem Semerkandum, & Bucharam.

Cui disticho (uti L. Baro Reviczkius ex Sudio refert) Tamerlanus occasionem dederat, ægre ferens, se, non æque, atque alios reges carminibus ab Hafizio celebrari.

Hac ratione regnum Nimruz in numerum provinciarum, Pag. 36.1in. quæ a Diwano Samanidarum pendebant, iterum adsertum.

agina 79., ubi Sistaniæ mentio facta est, additum est فيمروز nīmruz quoque nomine hanc ipsam provinciam intelligi; quamquam Herbelotius hoc nomine una cum Sistania etiam provinciam mekran comprehendi velit, propterea, quod utraque provincia, si reliquam Persiam spectes, australis sit, id quod نيمزوز nīmruz reaple fignificat.

Vocabulo ديوان dīwān duplex apud orientales fignificatio est: prima, poetis familiarior, collectionem indicat variorum poematum, quæ, fervata fimili terminatione, feu rythmo, fecundum fingulas alphabeti Arabici literas in ordinem digesta sunt; altera autem notio confessui, vel senatui tribuitur, ubi & publica apud orientales negotia curantur, & annui uniuscujusque provinciæ fumptus, fructusque computantur. Quare Mirchondius id unum per Diwanum Samanidarum hic innuit, capto nimirum Amru, expugnataque Sistania,

stania, provinciæ hujus negotia rursus ad Samanidarum familiam revoluta, atque ab hac usque eo administrata suisse, dum Chalefus, ut idem Mirchondius paulo post subjicit, publicas preces suo nomine sieri jusserit. Quod post quinquaginta circiter annorum intervallum accidit, cum منصور بن نوح منصور بن نوح Samanidarum dynastia princeps, imperium obtineret.

Pag. 36.lin. Historiographi nonnulli asserunt, Chalefum, Jacubi, Leisii filii, nepotem fuisse.

Quamquam omnes consentiant, Chalefum e Soffaridarum samilia oriundum suisse; avus tamen illius quisnam suerit, in diversum trahunt auctores, quorum nonnulli a Jacubo Leisio, alii ab Amru genus illius repetunt. Hinc in re tam dubia haud licuit, dum pagina 107. gentis hujus series exhiberetur, certi quidquam statuere; atque adeo prætermissa illa linea, qua stirpis hujus cum capite suo conjunctio indicanda erat, separatim Chales, ejusque patris nomina descripta sunt. Haği Chalse, cujus historia Soffaridarum jam prius pagina 108. allata est, duorum meminit Chalesorum, quorum pater Ahmedis unus, alter silius ejusdem suerat.

Pag. 36. lin. 22. & feq.

Ebni Esir, celebris alias historicus, contendit.

Jic idem ille auctor est, cujus librum: absolutum chronicorum opus pagina 18. Mirchondius in medium adsert, & de quo jam pagina 113. plura commemorata sunt.

Pag.37.lin. 2. & feq. In libro, Mirabilia Hamadanensia inscripto, narratur.

אלניב של אוניב של א

men אניש bedžūz - zemān i. e. mirabilia temporis, vel potius, miraculum sui seculi additum suerit. Vir enim suo ævo eloquentissimus erat. qui librum של makamat composuit, quem imitatus, suos postea consessus Haririus elucubratus est.

Abulfethius, ex urbe Bost oriundus, memorat, se in laudem Pag. 37. lin. Chalest tria concinasse disticha.

الم المعتمدي المعتمد

### شــعر

خلف بن احمد آحمد آلاخلاف البي بسودده على آلاسلاف خلف بن آحمد في آلحقيقة واحد لكونه مرتبي على آلالاف الحمي لآل آلليث اعلام آلوري مثل آلنبي لآل عبد مناف

Atibius narrat: Scheichius Abulfethius, Bostiensis, mihi retulit, se fortuito tria quondam disticha in Chalesi laudem composuisse, neque voluntatem sibi suisse, principi hos versus offerendi; verum, quod publica publici jam juris facti erant, in charta illi forte obvenerunt. Accidit igitur, ut die quadam fidus quispiam ad ipsum veniret, &, bursa cum tercentis denariis aureis ante illum deposita, præter hoc donum excusationem etiam principis Chalesi nomine adserret. Versus autem isti sunt:

" Chalefus, filius Ahmedis, laudatissimus in prosapia sua,

" Augustior in dominatu suo prædecessoribus

,, Successor filius laudatissimi juxta exactissimam veritatem

" Unicus in suo genere, altor multorum millium .

" Clarissimus de familia Leisiorum, vir sapiens in scientiis divinis

", Similis prophetæ de familia Abdu Menaf. (indicatur hic Mohammedes, cujus quartus avus Abdumenaf fuerat)

In urbe Bost بست vel ut in meis Mirchondii exemplaribus scriptum est إلى primam lucem aspexisse Abulfethium, cum Mirchondio Herbelotius contendit. Cujus urbis descriptionem, a Golio prætermissam, ex Hagi Chalfe integram hic loci subjicere placet : بست طقسان سکر بوچف طول اوتوز ایکی بوچف عرضده نهر هندمند کنارنده بر شهر مشهور در سجستانده ذرنجدن صگره بوندن معور شهر یوقدر شواسی لطيف عراف هواسنه و صوي فرات صوينه بكزر خلقي دخي اهل عرات طوری اوزره در نعمتی فراوان میوهسی چوف خصوصا خرماسی اجاضی غایت ایو اولور اوزومي دخي وافر در جوامع و مساجدي و نهر مزبور اوزرنده غایت ایو اولور اوزومي دخي واردر فضلادن ابو آلفتح بو شهره نسبت اولنور Boft Sub gradu 98. & medio longitudinis, 32. & dimidio itidem latitudinis gradu ad ripam fluvii Hindemend sita, urbs perguam celebris est. Post urbem Zereng hac ipsa, incolis magis frequentata urbs in provincia Segestan haud invenitur. Aer perguam gratus Yrakensi aeri fimillimus eft, itemque aqua Euphratis aqua assimilatur. Ad mores incolarum quod attinet, ii ad eorum, qui in Yraka funt, quam proxime accedunt. Maxima porro sui copia fructus dantur, ac cumprimis dactyli, prunaque, nec non uvæ optimi generis. Sunt ibidem majora æque fana, ac minores precationum domus, fluvius denique ponte navali instratus est. Inter viros, eruditione conspicuos, originem suam ab hac urbe Abulfethius traxit.

Anno

Anno tercentesimo quinquagesimo tertio Chalesus, silius Ab-Pag. 37.1in.
medis, peregrinationem sacram peragens, Taherum, silium
Huseini, — vicario sui nomine gubernatorem
Sistania constituit.

Hic itaque Bucharam se convertens, Mansuri, filii Nubi, Pag. 37.lin. opem implorabat.

Deceptum a Tahero Chalefum opem Mansuri implorare coactum fuisse, idem Jeminii auctor testatum facit, ubi ait: ودرغيبت او طاهر فلك و خزاين او بادست كرفت و در پادشافي لشكر خلف را بغريفت و قلاع و خزاين او بادست كرفت و در پادشافي سيستان طبع مستحكم كرد و چون خلف باز كشت مهلكت خويش شوريده يافت و راه وصول بهقر خويش بسته ديد بهنصور بن نوح ساماني شوريده يافت و راه وصول بهقر خويش بسته ديد بهنصور بن نوح ساماني التجاكرد و از و مرد خواست تا بهعونت و تقويت او ملك از تشبّث طاهر داند و از و مرد خواست تا بهعونت و تقويت او ملك از تشبّث طاهر المعافي الم

Celeberrimus e Samanidarum familia princeps التخف ابو الغسم er-rizā ābūül-kæsem nūhül-mansūr post patris obitum solium conscendit, id, quod Emir Jahjai anno tercentesimo evenisse affirmat, ad quam sententiam etiam suam Mirchondius, & Haği Chalfe cum Abulfeda adscribunt.

Pag. 37.lin. Taherus — in Esferain interea temporis se se recepit.

Urbs السغراين esferāin, alias etiam المائة mihrigan gradum longitudinis 91 mum cum dimidio, latitudinis 37 mum item cum dimidio in regione Nischaburiensi occupat. Nomen mihrigan i. e. autumnus ob eam potissimum rationem illi impositum est, quod suavissimus aer, fructumque abundantia perpetuum quasi tempe ibi essiciant; in ripa exigui cujusdam sluminis aquilonem versus arx posita est, haud ignobilis, cui quinquaginta omnino oppida subjiciuntur. Poma grati adeo saporis hic procreantur, ut circumquaque muneris loco mittantur. Tantæ vetustatis platani visuntur, ut inde a Nuschrewani tempore humi desixæ dicantur. Hæc descriptio potissima ex parte side, & auctoritate Haği Chalfe nititur.

Pag.38.lin. Chalefus — acri Huseinum in urbe, in quam se recepit, obsidione presserat.

Chalefum, dimisto, quem secum primum deduxerat, exercitu, bello iterum a Tahero petitum, ad Mansurum denuo consugisse, ejusque ope Huseinum, patre Tahero vita suncto, arcta obsidione pressisse, auctor Jeminii etiam pluribus hic exponit, ut sequitur: كالم المنافعة والمنافعة و

בשות לפני פ האלוחים מאוט פנישנים משותים פישנים לאום משותים לפני פישנים לאום משותים ולישנים בשותים בשותים בישנים ב

Elapso nonnullo jam temporis spatio, ex quo Chalefus impe-Pag. 38.lin.
rium recuperabat, ob summam persolvendam, quam Bagdadum
annis singulis missurum se se obstrinxerat, caussas
prætexere coepit.

eminii auctor plures annos elapíos effe scribit, queis annuum penfum exacte solvebat Chalefus, & dum refractarium se ostendebat, Manfurum omnia tentasse prius, quam bello ipsum peteret; uti ex sequentibus patescit: مالک خویش متمکّن بنشست و نفاذ حکم او در الله خویش متمکّن بنشست و نفاذ حکم او در عال سالیان
نواحی سیستان بقاعد معهود و رسم ماًلوف باز رفت و برین حال سالیان
بسیار بکذشت تا طغیان بخوت و ثروت بر مزاج او استیلا یافت و حق
ان انعام دولت فراموش کردد و در انفاذ وظایف حول و اتاوات کخرت
کخارا تقاعد و الظاظ نهود و اورا بامثله و مخاطبات مشحون بانواع نصایح
و تعریف سوابق ایادی و عوارف تنبیه نبودند و او در سکوت طغیان و
فشحیذ بصیرة مقصّر تا حسین بن طاهررا با جعی از مشاهیر اجناد و جاهیر
انجاد

לבונגנו Chalefus regnorum suorum possessiones adiit, atque mandato illius in omnibus Sistaniæ tractibus secundum pacta, regnique constitutiones accurate servabantur; jamque plures ita suxere anni, dum denique sidem fallere, refractariumque se gerere, in animum inducebat, omnium, quibus cumulatus erat, benesiciorum oblitus, tributo etiam, quod solvere debebat, principi Bucharensi negato. Suggerebantur equidem bona illi consilia, trationes; ast pertinaciter obsistens ille, nullo pacto ad obsequium pristinum reduci poterat, ita, ut Huseinum, silium Taheri, cum validissimis Chorosanæ copiis eo mitti necesse suere.

Illud quoque hic notare opus fuerit, per errorem in versione Latina modo admodum hic allatæ ex Mirchondio sententiæ Bagdadum irrepisse Bucharæ loco, atque legendum esse: quam Bu-

charam annis singulis se se missurum obstrinxerat.

Pag. 38.lin. Verum Huseino cum milite Sistaniam ingresso, Chalefus in ar-28. & seq. cem Direk, munimentorum omnium validissimum, se receperat.

Siftaniæ arcem المن direk esse, ex historico ipsius Mirchondii contextu elucet; nullus vero aut geographorum aut historicorum alter hujus mentionem ingerit, præter Jeminii auctorem, qui hanc arcem, in qua ab Huseino obsessus tenebatur Chalefus, المن والمنان وال

Quam septem omnino annos obsessam Huseinus tenuit, quin pag.39.lin; efficere quidquam potuerit.

non Huseini culpa incasso tot annorum labore obsessam fuisse arcem, Jeminii auctor his verbis comprobat: مديد در آن محاصرت مديد در آن محاصرت عتبي بتواتر مدد فرستاد و اركان و اعضاد دولت را بماند و وزير آبو آلحسين عتبي بتواتر مدد فرستاد و اركان و اعضاد دولت را بماند و وزير آبو آلحسين عتبي بتواتر مدد فرستاد و اركان و اعضاد دولت را بعذر بر كفايت آن مهم تحريص ميكرد و هيم وجه صورت مراد از حجاب تعذر المد مهمول نبي شد معنون نبي آمد و مقصود محصول موصول نبي شد معنون نبي أمد و مقصود محصول موصول نبي شد معنون نبي أمد و مقصود محصول موصول نبي شد معنون نبي أمد و مقصود محصول موصول نبي شد معنون نبي أمد و مقصود محصول موصول نبي شد معنون نبي أمد و مقصود محصول المعنون ال

Mansurus - Abu Alium, Semgurium, substituit.

Pag. 39.lin.

Semgurii familia complures viros genuit, qui in re historica, imprimis ad sequentes quod dynastias attinet, ingentem sibi nominis famam pepererunt, in quibus Huseinus, & Abdullahus præ aliis excelluere.

Abu Alius — — clam fidos ad Chalefum nuntios ablegat, P2g.39.1in.
qui renunciarent, necesse fore, ex hac arce in aliam ut

se recipiat.

eminii auctor hac de re diversa sentit; Hesseini enim in obsidione successorem Abul Hasan Semguri, & arcem alteram, in quam postea Chalefus se receperat, arcem المعنف المعنف المعنف المعنف المعنفة ا

آنجایکه رسید در شر کسی بوی فرستاد و بسبیل مواطات اشارت کرد که مدّت مقام احانت درین ولایت امتداد یافت و خللهاء بسیار در اطراف مملکت روی نود و چون آنجه در آن مناف است مي رود سر و جان در حفظ آن معروض حطير نهاده مي شود برباد آيد و تحال فرو شود سعي هدر ماند و رئم بی بر کردد طریق آن است که از بن مقام بر خیزی و برجاي ديكر تحويل كني تامن اين لشكرهارا بهانه نئل مقصود وحصول مطلوب ازین ولایت بیرون برم و چون عرصه خالی شد آنجی صلاً وقت باشد بروفف ایثار و احتیار پیش کیری خلف این نصیحت شنید و مقبول داشت و دافست که آن سخن از سر اخلاص وخلاص مي رود و از حصار ارك بر خاست و بقلعه طاف رفت و ابو آلحسن و اولياء دولت در اندرون حصار رفتند و بشارت بردند و فتح نامها بحضرت و هرطرف روان کردند و خطبه و سکه بالغاب نوح بن منصور مرین کردانیدند مولى بجانب خراسان نهادند Abul Hasan, Semgiuri, in Sistaniam contendebat, cui cum Chalefo veteris amicitiæ necessitudo intercedebat. Hic eo perveniens, clanculum hominem ad Chalefum mittebat, qui amice illi renuntiaret, jam nimium temporis effluxisse, ex quo, contentionibus ibidem exortis, omnes propemodum regni partes perturbationibus agitentur. Haud ipsum fugere, sin ita simultatum caussæ maneant, omnia in tam dubio rerum discrimine periclitari; rem Semper deteriorem fieri, omnemque locatam operam frustraneam fore, neque exantlatos labores quidquam profecturos. Eam igitur ipsi ineundamesse viam, ut, ab hoc loco discedens, in alium se conferat, tum demum se exercitus hoc specioso nomine, quod votorum suorum compotes facti sint, ex hac provincia reducere posse. gione dein militibus rursus vacua, ipsius optionem futuram, quas partes amplecti velit. Chalefus hac confilia grato animo accipiens, eo magis eis obtemperabat, quod perspectum ipsi erat, hac Abul Hasani verba sincera esse. Ab arce Erek igitur egressus, in munitionem, Tak dictam, se recepit. Abu Hasanus contra cum viris principibus non sine singularibus lætitiæ signis arcem Erek ingressus, lætos de hac expugnatione nuntios tum ad aulam principis, tum in reliquas etiam partes misit. Et publicis precibus, & monetis item Nuhi, filii Mansuri, nomen celebrari coeptum est. Abul Hasanus autem rursus Chorosanam repetiit. Ex

Ex narrationis contextu Mirchondii tempus circiter statui potest, quo arcem Direk exercitus Samanidarum occuparit. Notum enim est, sub Mansuro, qui idem est, quem auctor Jeminii principem Nuh dicit, obsidionem coeptam, & septenis omnino annis productam esse, dum nempe Huseini loco Abul Hasan arcem milite cingeret. Cum itaque idem Mirchondius contendat, perturbationes paulo post in Samanidarum samilia subortas esse, (id, quod post Nuhül-Mansuri obitum anno hegiræ tercentessimo octogesimo septimo accidit) arcis quoque expugnationem in ea circiter tempora incidere, non abs re suspicari licebit. Neque hoc prætereundum, in mappa videlicet regni Persiæ, a Delilio olim delineata loc m in provincia Sistania, nomine Darec insignitum, non procul ab urbe Zareng meridiem versus, occurrere, de quo autem nulla apud geographos Orientales, ut jam dictum est, occurrit mentio.

Eo porro tempore in ipsa Samanidarum familia jam pertur- Pag. 39 lin. bationes subortæ sunt.

Ex posteriori Mirchondii historia de Samanidarum dynastia constat, post mortem principis Nuh totum pene ipsius regnum in partes scissum esse; partim enim Faikius, dux exercitus apud Samanidas, regnum cum Turkestaniæ principe insestabat, partim Mahmudus, silius Subuktegini, dominatum Chorosanæ arripiens, novam Gaznavidarum dynastiam instituebat.

Nassireddin Subugtegbino quondam ad bellum sacrum in India Pag. 39.11a partes converso.

auctore laudibus celebratus, Turca origine, & ابو اسحق البتاني abu ishak elbtekin libertus, Mansurum, filium Nuh, Samanidam, ad provinciam Gazna administrandam missum, secutus est; a cujus filio dein Gaznavidarum dynastia, centum quinquaginta quinque annos, Emir Jahjai teste, perdurans, profecta est.

India, a Mirchondio هندستان hindiftan dicta, Arabibus, tefte Golio in notis ad Alfraganium , بلاد آلهندو بلاد آلهندو بلاد آلهندو فلاد آلهندو فلاد آلهند ladüssind i. e. India, & Sindia compellatur. Sindia aquilonem versus Karamania, seu potius regione Mekran, & Segestanæ deserto, reliqua autem sui parte fere India terminatur, cujus etiam nonnullas partes suis terminis includit. Ad africum mari alluitur, quod inde Sindicum audit, quodque altera parte Perfico, altera Indico proximum est. Haği Chalfe vero & India, & Sindia alios limites tribuit : priorem quidem , quam اقليم هند iklīmi hind i. e. clima Indicum vocat, ad occidentem flumine, orientalibus dicto, ad septentrionem monte Tauro, ad orientem oceano orientali, ad meridiem demum oceano Indico circumscriptam esse asserit; Sindiam vero, quam nomen اقليم سند iklimi find a سند, filio Chami, filii Noe, invenisse ait, ad occidentem provincia Mekran, & deferto Segestan, ad austrum oceano orientali, ad orientem provincia Kegerat, ad septentrionem denique regionibus Tibet, Keschmiro, & kiabulo concludit.

Pag.399in. 24. & feq.

## Chalefus - Bostam ingressus est.

Hanc Boftiensis agri invasionem, quam, absente Nassireddino, tentarat Chalesus, adjunctis etiam rebus quibusdam, eo pertinentibus, scituque dignis, describit Jeminii auctor, ut sequitur: واله بغراغ بخوت در ولايت خويش مطبئن بنشست و بخزاين جهان مستظهر شد و نخوت طغيان بر مزاج او استيلا يافت وحودرا بعارضه و فحول و تعريض فضول در معرض خطر آورد و چون ملك هند آهنك ديار اسلام كرد و ناصر الدّين بهدافعت او بر خاست بر آن موجب كه در صدر كتاب مذكور و مسطور است خلف ابن احمد بست خالي يافت لشكري بدانجه فرستاد و در بست خطبه و سكّه بنام خود كرد و مال معاملات آن نواحي بستد و چون ناصر الدّين از آن وقعه عنصور باز كشت و ببست نزديك رسيد اصحاب خلف شهررا باز كذاشتند و برفتند و أمير نصر الدّين از بي حفاظي و غدر او متعض شد و عزم ناحيت سيستان پيش كرفت خلف كس فرستاد و بعذر هاء معاول و سخنهاء نا مقبول تبسّك جست و كفت اين جرأت از سر خلوص

سر خلوص خذمت رفت و اكر از قبل من شحنه ع بست رفت براي حفظ ولايت رعايت و رعيت تو بود وخراج و معامله كه تحصيل كرد از براي خزانه عتو كرد و أكر ازين جهت غباري برحاشيه عناطر شريف نشسته است ارش این جنایت را ملتزم شوم و غرامت این بی خردکی بدهم ناصر آلدین از سركرم ولين مقادت وسجاحت طبع وشول رأفت رالا تغافل و تعابى پیش کرفت و شمشیر انتقام در نیام نهاد وباز سر رضا آمد و معاملات بست باز خواست و او از طیب آلتفس آن مال بفرستاد و حال مودت Hic (Chalefus) in Jua از شوائب کدورت صافی شد وذات آلبین مهور کشت provincia quiete consederat, ob congestas immensas opes clarus, dum, Superbia elatus, novas mente sediționes agitabat, potentiamque, ac vires suas experiri proponebat. Eo igitur tempore, quo, Indiarum rege provincias Moslemorum invadere tentante, Nassireddinus, illum repressurus, in viam se dabat, Chalefus, filius Ahmedis (prout initio libri jam notatum est) ad vacuam urbem Bost suum mittens exercitum, & publicas ibidem preces fieri, & monetas etiam suo nomine cudi curavit, atque pecunias quoque ab illis partibus exigebat. Postquam dein Nassireddinus victor ab expeditione rediens, urbi Bost jam appropinquaret, constituti a Chaleso præsecti, relicta urbe, denuo se recipiebant. Nassireddinus hac Chalesi persidia ad iram concitatus, in Sistaniam ipse movebat; Chalefus igitur legatos cum literis, vanis excufationibus plenis, obviam illi mittebat, queis contestabatur, hanc temeritatem eo solum animo se perpetrasse, quod principis id servitio expedire crederet; nam præfectum, quem sui loco Bostam miserat, ad custodiendam provinciam, regendosque subditos ipsius loco se constituisse; omnia etiam vectigalia, pecuniasque, inde extractas, gaza principis se destinasse, & siquidem illius animus inde offendatur, hanc indecentem actionem debilitati ingenii, ipsius se se adscribere. Nassireddinus pro ingenita sua mansuetudine, & aquitatis amore facile veniam dabat, atque ab omni ulteriori vindicta se abstinens, eo contentus erat, ut extortam ab urbe Bost pecuniam restitueret, quam etiam Chalefus omni cum integritate reddidit; atque hac ratione inter utrumque pristina amicitia iterum confirmata eft.

Hujus similitudinem quandam refert, quod Mohammedes Kasim Firischte, urbe Dehli oriundus, ad annum hegiræ nongentesimum septuagesimum septimum in sua historia Indica commemorat: eo tempore, quo Subukteghinus supremo poritus est imperio, Taigha quidam, arci Bost præsectus, ab alio, cui nomen Beb-dur, vi ex urbe expulsus est, ita, ut Nassireddini Subukteghini auxilium implorarit, ipsiusque ope in priorem præsecturam, ea tamen conditione, restitutus suerit, ut tributum annuum dependens, urbis hujus præsecturam gereret. Hoc eodem tempore Subukteghinus nosse coepit Abulfethium, qui scribæ munere apud Beb-dur sungebatur, eumque ad servitium suum invitavit, cui tamdiu se addixit, quoad Mahmudus, silius Subukteghini, thronum conscenderat, quo tempore, animo offensus, in Turkistaniam se recepit.

Pag.40.lin. Simultates equidem & vice alia ipsum inter, & Subukteghinum exortæ sunt.

> arum simultatum, quæ Chalefum inter, & Emir Subukteghinum intercesserant, diffusius meminit Jeminii auctor; hic interim præcipua rerum capita exposuisse sufficiat: cum Nassireddinus, Samanidarum principi, Nuh, filio Mansuri, contra Ilek Chanum, principem Turcomaniæ, suppetias ferret, Oxoque ea de caussa trajecto, moras tamen aliquantum traheret, propterea, quod amice rem componere speraret; Chalefus have inter furtivis literis Ilek Chanum incitabat, ut Nassireddino arma obverteret, ipse urbem Bost interea temporis petere intendens. Graviorem autem indignationem Nassireddino commoverat, quod Chalefus illi objecit, Abu Alium, fuæ alias aulæ clientem, tam indigne ab illo habitum esfe. His itaque incensus Nassireddinus iter jam in Sistaniam ingressus erat, vindictam a Chalefo sumturus; quod præstitisset etiam, ni Bostiensis ille doctor, Abulfethius, exquisitissimis verbis principis Chalesi animum demulcere elaborasset, hac etiam inter alia similitudine usus: hominis animum ejusdem naturæ este, atque avem, quæ dum, pansis alis aera fecans, libero cœlo fruitur, omne studium aucupes in eo ponunt, ut miseram aviculam, fraude artificiosa circumventam, in

rete suum trahant, quo facto, omnem dein illius curam abjiciunt; amici animum suas ut in partes inclinent homines, omnem curam, ac solicitudinem adhibent; hunc jam ut addictum sibi conservent, bonis eum demulceant, minime vero offendant, necesse est. Chalefum hoc pacto Abulfethius impulit, ut de reconciliatione gratiæ eum Nassireddino per literas agens, pristinam amicitiam redintegratet, quæ ad Nassireddini usque obitum inconcussa perduravit, sicut postrema hæc ejusdem auctoris Jeminii verba ostendunt: של של של של של של של לכן פישון משל לכן פישון משל לכן פישון של של לכן פישון של של של של של היישון ובשוט מידים של היישון ובשוט מידים של אוני ושל אוני ושל

Chalefus — — Kermaniæ animo inhiarat; verum, cum ipfum Fag. 40.1in. inter, & Affaduddewlet firmum amicitiæ vinculum intercederet, ab hoc proposito rursus desistebat.

المر المؤمنين على رضي الله عنه مدون شد والدت عضدالد وله در يوم

Assaduddewlet, mense Ramazan anni tercentesimi septuagesimi secundi ex epilepsia Bagdadi supremum diem obiens, tumulo illatus est in urbe Mesched, ubi principis credentium, Ali, sepulcrum est, (de quo sibi Deus complaceat) primam Assaduddewlet in urbe Isfahan lucem aspexit feria prima, die quinta mensis Zuül-kaade anni hegiræ tercentesimi vigesimi quarti.

Pag.40.lin. Ut Samsamüddewlet regni gubernacula Schirazi susceperat, filium suum in Kermaniam expediit.

Ex historia compertum est, Samsamuddewlet post fratris, majoris natu, mortem propter regni hæreditatem cum fratre altero, juniore bellum enatum esse; atque, his præmissis, penitius intelligitur, quid sit, quod Mirchondius in præsentis historiæ serie referat, Samsamuddewlet ob id maxime Timur Taschio infensum suisse, quod illi cum fratre suo Behauddewlet arctioris amicitiæ vinculum intercesserit.

Pag.41.lin. 8. & feq. Collata itaque in confinibus Sirgian fuere arma.

שניבוט sirājiān provinciæ Kermaniæ, longitudinis gradum 90. & 20'. latitudinis 29. & 30'. fecundum Nassireddinum, & Ulughbegium obtinet; ab his autem discrepans, Haāji Chalfe in opere geographico, urbis longitudini 92. gradus cum dimidio, latitudini 29. item cum dimidio tribuit. Eodem auctore hæc ampla urbs est, ad quam per aquæductus aqua deducitur, cujusque ædiscia plurima fornicata sunt; munimentum quoque hic visitur, ab Harunsuraschid Chalifa eo tempore extructum, quo regionis hujus incolæ Islamismum amplexi sunt; huic insuper munimento, quod & provinciæ præsectorum sedes est, octo sunt portæ, quarum illa, quæ occidentem versus patet, ad palatium ducit, cui קום kasre haāgeb nomen inditum est. In maxima incolarum parte præcipua divitiarum, in muliebri vero sexu venustatis etiam commendatio est. Aeris temperies paulo calidior. Gossipium, & sructus, inprimis dactyli, hic nati,

nati, reliquos generis præstantia facile superant. Ab hac urbe denique duabus stationibus occidentem versus جيرفت gireft urbs ejusdem provinciæ distat.

Chalefus filium suum Taherum in Kuhestaniam contendere justit. Pag. 43.lia.

Rege Jeminuddewlet ab expeditione Transoxana reduce, Bei-Pag. 43.1in. kara Hak, patruus ejus, assensum petiit, quo Taherum 6. & seq. rursus e terris hisce expellere sibi liceret.

Auctor Jeminii hæc eadem quidem, mutatis tamen nonnullis, refert, in quibus & hoc præcipuum, Chalefum illud potissimum tempus, silium videlicet Taherum cum exercitu in Kuhestaniam mittendi, opportunum existimasse, quo Nassiruddinum Subukteghinum supremum diem obiisse audierat. Jeminuddewlet, Mahmudum præterea, de morte patrui sui, propria Taheri manu occisi, certiorem redditum, ad repetendam vindictam anno hegiræ tercentesimo nonagesimo in Sistaniam adversus Chalefum arma movisse.

Historiæ Indicæ auctor, Mohammedes Kasim Firischte, Dehliensis, jam supra citatus, eodem anno tercentesimo nonagesimo Mahmudum Sultanum, Balcha ad urbem Herat, pauloque post Herata in Sistaniam sestinato itinere contendisse, atque inde, Chaleso, silio Ahmedis, gubernatore Bucharæ, prælio suso, Gaznam rediisse assirmat.

Pag. 44.lin. Chalefus se recipiebat in arcem Assebbud, adeo altam, ut, nubibus tecta, ipsa adeo astra attingere videretur.

Mirchondius arcis hujus, de qua ex aliis geographis orientalibus nil certius cognosci potuit, descriptionem, miris metaphoris exernatam, ex historia auctoris Jeminii deprompsisse videtur, ut hic annexa hujus ipsius verba sidem faciunt: اليف افلاكست ابر در دامن حضيضش خيمه زند و ستاره برامن اوجش طوف كند هلال چون ماهچه بر شرف برجش و زحل چون كوكي بــر طوف كند هلال چون ماهچه بر شرف برجش و زحل چون كوكي بــر آسانه قـــــــــصرش

# از بلندش فرف تنوان کرد 🐡 آتش دیدهبان زجرم زخل

Arx ob altitudinem confæderata stellis est, quæ pedes leonis dicuntur, & amica orbibus cælestibus. Nubes ad inferiorem arcis partem extendunt tentoria sua, & astra circum tecta se rotant; novæ lunæ phases, & globus deauratus circa acroteria mæniorum, & Saturnus instar tritonis solarii apparet.

#### Versus,

" Ob altitudinem suam non potest distinqui

" Ignis, qui per ptæsidiarios ejicitur, ab ipso globo Saturni.

Fag. 44.lin. Iis tum curis distentus, ut in Indiam iter institueret.

Auctor Jeminii cum Mohammede Kasim Firischte hanc a Mahmudo, silio Subukteghini, susceptam in Indias expeditionem pluribus exponit; omnia tamen eo sere redeunt, ipsum Indiarum regem Japa gībal gentilem, Moslemorum terras ingressum, a Mahmudo, silio Subukteghini, expeditionem sacram religionis nomine adversus illum suscipere compulso, selici prælio susum, captumque, & vita denique privatum suisse.

Mahmu

Mahmudus ob religionem Mohammedanicam, feliciter adeo in Indias prolatam, laudibus passim a Moslemicis poetis in coelum extollitur. Utque alios præteram, ex biographia illa, quæ anthologiæ Persicæ, hic loci in lucem emissæ, adjecta est, affatim liquet, Ferdusi, Ferræhi, Aensari, Aesdschidi illustres omnes poetas, Mahmudi laudes decantasse, cumprimis & postremum horum celebre in hanc Indicam expeditionem epicedion condidisse, cujus hoc initium:

تاشاه خرده بین سغر سومنات کرد \* کردار خویش را علم معجزات کرد

Quando hic sapiens, & perpsicax rex idolis bellum indixit

Vexillumque sustulit mirabilium suorum factorum.

Confecto etiam numeroso equite, exercitum urbem Hürset Pag. 44.lin.
versus deduxit.

Hanc Kermaniæ urbem a Mirchondio a hurfet, ab Hagi Chalfe contra e giurfet dictam, Delilius in geographica regni Perfici mappa Giruft nuncupat. Hæc urbs, eodem Hagi Chalfe auctore, esfy etiam nomine nota, a mercatoribus ut plurimum incolitur, unde & vile hic mercibus pretium statuitur. Ab oriente urbem Sirgian respicit. Persica, & nuces plane eodem cum nivibus tempore provenire solent. Prata denique haud paucis sluminibus irrigantur. Quo loco urbs modo conspicitur, eodem olim, provincia nimirum a Moslemis expugnata, sylva suit. Cum aer paulo calidior sit, dactilos hic, & persica magna copia procreari, necesse est.

Paulo alia ratione bic ipse casus refertur in translatione Pag. 46.lin. historiæ, a Jeminio conscriptæ.

emini, seu potius كتاب يبيني kitāb jeminy i.e. liber Jemini inscriptio est historiæ, Arabica primum lingua in lucem prodeuntis, cujus auctor erat אונף אונים ביים abūn-næsr atibi, ætate, ut ex pagina 162. intelligitur, conjunctus cum Sultano Mahmudo, silio Subukteghini,

qui opera illius in negotiis publicis utebatur. Hanc historiam posterioribus temporibus, dum ex Atabekiorum familia princeps المعلى العالم المعلى العالم المعلى العالم المعلى العالم ال

Hæc historia seriem rerum, gestarum a Nassireddino Subukteghino, auctore dynastiæ Gaznavidarum (de Samanidis enim perpauca asseruntur) usque ad annum hegiræ quingentesimum octogesimum secundum complectitur. Eadem demum hæc historia tam Arabica, quam Persica reperitur in bibliotheca Raghib Pascha, publicos ad usus Constantinopoli patente, sub duplici hac inscriptione: عام خارج العنبي خواج العنبي خواج العنبي خواج العنبي خواج العنبي خواج العنبي العن

Pag. 46.lin. Chalefum principem sui loco ad avitum regni thronum evexisse filium, Ahmed Taherum.

Quod Mirchondius de perpetrata a Chalefo filii Taheri cæde narrat, nonsolum ex Jeminii auctore hausit, sed integris plane ejusdem verbis descripsit.

Pag.47.lin.

Interea Chalefus in Tak arce considebat.

Arx hæc ab Hagi Chalfe provinciæ Sistaniæ urbs minor, & alio item nomine عصن الطاف hysnut - tāk dicta, medii diei itinere ab oppido

oppido Chawasch dissita est. Hortis, pratis, & pagis frequentibus circumdata est. In fructibus illius uvæ præcipue laudantur. Pone ipsam urbem sub editiore montis cacumine arx adjacet, quam sluvius circumsus inexpugnabilem reddidit, ita, ut tuto hic thesaurus regius quondam asservaretur.

Hic itaque ob aeris temperiem locum, Giuzgianam dictum, Pag. 48. lin. fibi delegerat.

Dominis Giuzgian, vel, ut Mirchondius scribit, פָּנְבְּוֹטֹי giuz-gianan nulla apud geographos vestigia deprehenduntur; si vocabuli analogiam spectes, verisimilius est, בְּבִּוֹט giorgan designari, cujus jam pagina 103. mentio incidit. Hæc opinio (licet ob aeris in hoc loco minus salubris temperiem, uti pagina 104. dictum est, haud omne dubium tollatur) ad verum tamen eo propius accedere videtur, quod auctor Jeminii, quem Mirchondius pene totum hic transcripsit, hujus etiam rei hunc in modum meminerit: ناحیت جورجان Quod districtum Giorgianæ ob aquæ, نامیت جورجان Quod districtum Giorgianæ ob aquæ,

E re fore Sultano Mahmudo videbatur, ut in aliquam regni Pag. 49. lin sui arcem ipsum transferret.

Sæpe jam laudatæ historiæ Indicæ auctor, Mohammedes Kasim Firischte, Dehliensis, memoriæ prodidit, mense Moharrem anni hegiræ tercentesimi nonagesimi tertii Mahmudum, silium Subuktegini, denuo Sistaniam petiisse, quo Chalesum, præsecturæ munere male sunctum, Gaznam vinctum secum perduceret.

Quo in loco denique permansit, dum sinem vivendi faceret. Pag. 49.1in.

اسطان از بھر صلاح : Chalefi obitum commemorans, adjungit Jeminii auctor, ea verbis ipfius hic fubjicere haud abs re fuerit ملک اورا بقلعه عردین فرستاد آنجا بکاه بود تا و عده عقد در رسید و

Sultanus (Mahmudus) e regni necessitate esse vidit, ut illum (Chalefum) in arcem Geredin transmitteret, ubi etiam permansit, dum ipsi extrema demum dies illucesceret; id quod accidit mense Regeb anni tercentesimi nonagesimi noni.

Pag. 49. lin. Sultanus post hæc præceperat, ut relictæ possessiones silio ipsius, Abu Hasizio, traderentur.

Justin irchondius filium Chalesi, cui relicta patris bona, Mahmudi jussu, cessere liga pi ābū hāsiz; Haği Chalse vero pagina 110. Taherum appellat, doctrina itidem, & virtute præstantem, qui supremus regni moderator, palatio Taher (quod Bagdadi erat) nomen dedit. Ab auctore Jeminii contra, ex quo, ut jam iteratis vicibus insinuatum est, sua Mirchondius excerpsit, pi abū hass nuncupatur. Denique & illud hic addidisse juverit, quod Abulseda in annalibus Moslemicis ad annum tercentesimum nonagesimum tertium scriptum de Chaleso reliquit. Segestana potitus suit Jeminiddewlet Mahmud, silius Subuktegini, ejecto Chaleso, Ahmedis silio, quem ille Chalesum primum quadriennio, Girgianæ agere sivit, deinde ademta prorsus libertate ad vitæ sinem Giardinæ tenuit; Chales ille studio literarum magnam adeptus est samam, & edidit commentarium in Alcoranum, voluminosum, si quod aliud, opus.

Pag. 49.lin. 33. & feq. Vastum hoc opus - - in urbe Ispahan locum obtinet.

ispahān, quod & العنهان العنهان العنهان isfahān atque etiam العنهان ispahān promiscue scribitur, & dicitur, Persiæ urbs est, toto orbe notissima, cujus accuratior descriptio optimam operi huic coronidem imponet. Consentientibus Nassireddino, & Ulughbegio, itemque Golio in notis ad Alfraganium, sub gradu longitudinis 86, 40'. latitudinis 32. 25'. sita, juxta Haği Chalfe 33. latitudinis gradum

dum obtinet, a Nassireddino, & Ulughbegio provinciæ Gebal, ab Haği Chalfe, Yrakæ Persicæ adscripta. Si modernum urbis nomen spectes, hanc cum Aspa Ptolomai, in Parthia sitam, eandem esse verisimile est. Teste Hagi Chalfe inter depressiores montes extructa, urbibus tum antiquissimis, tum maximis adnumeratur, nomen suum ab antiquorum Persia regum militia, اسيه ispah dicta, repetens, quæ in ea stationem habuit. Fuere olim eo in loco, quo nunc urbs confistit, oppida sane vasta, numero quatuor, ex quibus in unum collectis hanc Tamurafus civitatem condidit, in qua fubin Kaikubadus sedem regni sui fixerat, quæve idcirco, confluente undique populo, in maximam civitatem excrevit. Hebrai, a Nabonassare fedibus suis expulsi, his ipsis in locis olim confedisse feruntur, unde & hodiedum vicus a Judæis inhabitatus, فيهوديه jehudie compellatur. Aeris porro temperie, tam æftate, quam hyeme utcunque moderata, utitur, vix unquam gravioribus cœlo effusis imbribus, aut terræ motibus, aut aliis cœli injuriis obnoxia. Qui urbem, hortosque diductis brachiis ambit fluvius, زندرود zenderūd nuncupatur; aqua itidem, ex puteis hausta, & dulcis, & salubris est, neque fructus, hic loci procreati, ex feminibus, undelibet allatis, fi mala punica excipias, præstantia aliis inferiores sunt, in quibus tamen melones, itemque poma & fuavitate, & dulcedine omnibus anteferuntur. Suburbium, cui ali, zulfe nomen, his proximis temporibus extructum, ab Armenis incolitur. Afferente Hanwayo, qui postremos inter ad hæc loca invisit, præfectura Ispahanensis 24. milliaria complexa, in octo circulos dividitur, qui tempore Nadirii, anno videlicet 1742. extremas calamitates perpessi, potissima incolarum parte privati funt.

# FINIS.



# والمراج المراج ا

# INDEX RERUM, ET NOMINUM.

A.

Abdullabus , filius Salibii , auctor Mobammedi, filio Taberi, ut se Rejam reciperet. Pag. 13. Abdullahus , filius Taberi , Nasrum , filium Schebibi , bareticum debellare conatur 7. 77. ejus proxima post patris mortem in Chorosana successio minus probabilis 76. præest Ægypto. 78. a Ma-muno Chalifa Chorosanam regendam accipit. 8. refractarios Chorosana bareticos exstirpat. ibid. ejus encomium. 9. 85.

Absolutum chronicorum opus. Titulus bistoriæ universalis, Kamilet tarich dictæ, 18. 113.

ejusdem auctor ibid.

Abu Alius Semidschiurius, Mansuri, filii Nubi , bellidux adversus Chalefum. 39. 157. ejus gefta. 39. 157. 158. 159.

Abu Hafizius, filius Chalefi, post mortem patris, indultu Jemineddurolet Mahmudi relictas ejusdem possessiones adit. 49. 170.

Abuet Tybius. Agnomen Taberi Züüljemi-

nein. 6.

Abulferbius. Poeta sui temporis celebris. 37. 151. ob terna, in laudem Chalefi principis concinnata disticha, ab eodem remunerationem accipit. 37. 152.

Abul Husein Jabjai, filius Omari, princeps dynastiæ cujusdam, cujus sedes Kufæ fuit. 97.

Abulla. Amuis, in Tigrim illabens, 124. Abmed, abu Chalid, Vezirius Mamuni Cha-lifæ, cujus opera Tabero Züüljeminein præfectura Chorofanæ obtigit. 4. 5. 64. Abmed, hen bufeinül hamadani. Hiftoriogra-

phus. 150.

Abmedes, filius Fazl, e Sistania profugus, in Mohammedis, filii Taberi, Chorofanæ principis,

clientelam fe recipit. 13.

Abmedes, filius Ismaelis, princeps dynastiæ Samanidarum, Huseinum, filium Ali, ad debel-landum Amrum, filium Jacubi, cum exercitu ablegat. 35. 148. sub ejus regimine Sistania Diwano Samanidarum adferitur. 36. 148.

Abwaz. Regio in Persia, cum metropoli ejus-

dem nominis. 21. 125.

Aischa, uxor Mohammedis, dubiæ in maritum fidei insimulara 92. Traditiones ipsius de Mobammede magni apud Moslemos pretii. ibid.

Ali, dux exercitus Emini Chalifæ in bello adversus Mamunum, fratrem Emini. 61.

Ali, filius Musa, e familia Alidarum, in foderis societatem a Chalifa Mamuno adscitus. 98. 99.

Ali, filius Talebæ, Chorofanæ principis, patri substitutionis jure succedens, band paulo post

a seditiosis occiditur. 7.

Alida. Nomen genrile familia, ab Ali, generi Mohammedis, descendentis. 12. 98. familia isthec Chalisis execrabilis, ibid, meliorem fortem fub Mamuno Chalifa nacta. ibid.

Allabekber. Vallis prope Schirazum. 115. Aloe, & ambræ usus apud orientales frequens.

134. Amela. Metropolis interioris Tabaristana. 20. 122. ad diftinquendam cognominem urbem, trans Oxum sitam, etiam Amela Tabaristanæ dici folita. ibid.

Amru, filius Jacubi, Sistania princeps opera Mobammedis, filii Hermuzi, electus. 34. 35. ab Huseino, filio Ali, pralio victus, Bucharam du-

citur. 36.

Amru Leis , Soffaridarum dynastiæ princeps post mortem fratris Jacubi Leisii. 24. 131. cum Mohammede, filio Leifii, rebelli arinis congreditur. 24. munera varia Chalifæ, fratrique ejus, Memfikio, fubmittit, ibid, a Chalifa Chorafanæ imperio exuitur. 25. prælio vincitur ab exercitu Chalifa, ibid, cum Rafi, filio Hermeze, armis congreditur, victorque evadit, ibid. rurfus princeps Chorofanæ, & aliarum provinciarum a Chalifa denominatur. 26. munera Bagdadum e Chorofana, Chalifæ submittit. ibid. facta, justu ipsius, adversus Ismaelem, Samanidam, expeditio bel-lica infelix. 27. ab Ismaele, Samanida, capitur. ibid. Bagdadum ad Chalifam deducitur, ubi carceri mancipatur. 29. varia ejusdem facta. 30. 31, 32. 143. que tempore obierit? 140. 141. Asfeh-

Asfebbud. Arx in Sistania. 44. 166. ejus de-Scriptio. ibid.

Affaduddewlet. Princeps e familia-Ali Bojida-

rum , Chalefi amicus, 40. 163.

Atibi. Auctor bistoriæ cujusdam. 167.

Ayfa, filius Mohammedis, filii Djehiafar, verberibus, juffu Mutewekilii chalifæ, caftigatur, quod convitiis lacesseret primos Mobammedis succeffores. 11.

Azizius, mancipium Abdullabi, filii Taberi Zuuljeminein , ad servitia prioris domini ex

Agypto redit. 8.83.

Azurabadegan, Nomen delubri ignicolarum antiquissimi. 88.

#### В.

Babekus Huremdinus , refractarius Mamuno Chalifa. 8. bunc reprimere conarur Abdullabus, filius Taheri, Zuüljeminein. 81. bujus viri gesta. ib.

Bagdadum. Metropolis Yrakæ Babylonica. 3. 59. ejus descriptio, ibid. male cum veteri Chaldeorum metropoli, Babylone, confunditur, ibid. ejus conditor Mansurus Chalifa. 60. ejus fata. ibid. urbis bujus districtus bodiedum a Paffa gubernasur, ibid.

Balcha. Merropolis Chorofana. 19. 116. Lobraspus, antiquus Persia vex, ejus conditor. 117.

eadem cum veterum Bactris: ibid.

Barmekidæ. Nomen gentile familiæ celebris

apud Perfas. 117.

Basra, Baffora, & Balfora. Urbs cum territorio amplo in Yraka Arabica. 21. 124. condita ab Omaro Chalifa, ibid, celebris olim a literaria palæstra. ibib. provincia Basrensis nunc temporis imperio Ottomanico fubdita. ibid.

Becca. Urbs. eadem cum Mecca. 95.

Behar. Nomen pyrei in urbe Balch, antiquiffimis temporibus celebris. 117.

Beblevan. Nomen, antiquis Persia beroibus tribui folitum. 89.

Bost. Urbs provincia Sistania. 37. 152. ejus

descriptio ibid.

Buchara. Urbs Transoxanæ provincia. 36. 148. ejus descriptio. ibid. virorum, a doctrina clarorum , parria. ibid.

Chalefus , filius Abmedis , princeps Sistania. 36. varia de stirpe principis bujus sententia, ibid.

37. 150. ejus laus. 37. peregrinationem Meccanam peragit. 37. 153. principatum Sistaniæ ope Mansuri, filii Nuhi, binis vicibus recuperat. 37. 38. 153. ob fummam annuam Manfuro, filio Nubi, perfolvendam caussas prætexit. ibid. 155. a Mansuri exercitu in arce Direk oppugnatur, ex qua in aliam, Tak dictam, fe recipit. 39 158. Naf-siruddino Subuktegino, bello in India distento, urbem Bost in suam potestatem redigit, quam tamen eo redeunte dimittit. 40, 160, 161. ejusdem novæ cum Subuktegino simultates. ibid. 162. 163. filium Juum Omarum ad expugnandam Kermaniam expedit. 40. ad Uftad Hermuzum, prafectum Kermaniæ, a Samfamuddewlet constitutum, legatos mittit, amicitiæ roberandæ prætextu. 41. Taberum in Kubestaniam cum exercitu contendere jubet. 43. 165. a Jeminüddewlet Mahmudo in Asfehbud , arce Siflania , oppugnatur. 44. veniars a Jeminüddewlet Mahmudo petit. ibid. filium Taherum speciosis verbis decipit. 45 46. a Jeminuddewlet Mahmudo in arce Tak oppugnatur. 47. ab eodem devictus in Dichinzdichianam se recipit. 48. 169. unde amotus in aliam transfertur. 49. 169. bac in arce moritur, ibid. 170.

Charidschii. Nomen sectariorum, qui Chalifatus auctoritatem respuunt. 77. quo tempore coe-

perint. ibid quæ fata subierint. 78.

Chorofana. Regio Persia. 3. 5. 66. ejus limites, ibid. complectitur in se antiquorum Parthiam, Ariam, Paropamifum, Margianam, & Bactrianam, ibid. Chorofanæ etymon, ibid. re-

gionis bujus clima falubre. ibid.

Chutbe i. e. oratio folennis, in majoribus Moslemorum fanis feria sexta peragi solita. 67. banc orazionem foli Chalifæ in metropoli olim perage. bant. 68. in aliis fanis majoribus ditionum Mufulmanicarum pro regnante tantum Chalifa folennis hac commemoratio fieri confuevit. ibid. primus banc confuetudinem infregit Taberus Züülje, minein, ibid. bæ commemorationes pro aliis quoque successi temporis baberi coeptæ. ibid.

Dehafeh. Fluvius. idem cum Deruha. 117. Deilem. Regio. 12. 100. ejus limites, & de. scriptio, ibid, nomen suum a populo, olim in bac regione subsistente, mutuata. ibid.

Derhemus, filius Nasirii, princeps Sistania, omnis rei gerendæ provinciam Jacubo Leisio ac-

legans. 18. 112.

Y 3

Deru-

Deruba. Fluvius ad urbem Balcham in Cho-

Didschle. Nomen fluvii Tigris , 93.

Dinawar. Urbs Yrakæ Perficæ. 8. 83. varia urbis bujus nomina, ibid.

Direk. Munimentum validiffimum in Siftania.

38. 156. ejusdem descriptio, ibid.

Diwan. 36. 149. duplex bujus vocabuli no-

tio. ibid. 150.

Dichem. Antiquum urbis Jemame nomen. 125. Dschiafar, filius Davidis, ab Azizio, mancipio Abdullabi, acie funditur. 8.

Dschilan. Regio, eadem cum Ghilan. 100. Dschiordschan. Primarium cognominis provin-

ciæ oppidum. 12. 103. provinciæ bujus aer minus falubris. 104. bodierni bujus provinciæ incolæ ut plurimum Schiitæ. ibid.

Dschireft. Urbs Kermania. 165.

Dschiuneid, Nomen viri, ex familia Alidarum, austeræ admodum vitæ, a quo originem suam postrema regni Persici dynastia repetiit. 99.

Dichiurfet, Urbs Kermania, eadem cum Hur-

fer. 167.

#### E.

Ebni Estr. Auctor bistoria, absolutum chronicorum opus inscriptæ. 36. 150.

Elbarramein. i. e. duæ Arabiæ sacræ civitates. Nomen binarum urbium, Mecca nimirum,

& Medinæ in Arabia. 12. 95. Eminus Chalifa, a Tahero Züüljeminein, Mamuni duce, prælio victus, juffu ejusdem occiditur. 58.

Esferain. Urbs regionis Nijehaburiensis, 37.

154. ejus descriptio. ibid.

Esfy. Urbs Kermaniæ, eadem cum Hürfet.

Eunuchi, ministeriis domesticis apud Persas adbibiti. 3. 63.

### F.

Farfia. Provincia Perfia. 19. 121. a quo fie denominata, ibid. bujus provinciæ termini, & divisio. ibid. incolæ provinciæ bujus præ Persis aliis a Mohammede, fecta Moslemitica auctore. laudari, ibid.

Fidei formula confessionis Mobammedanica. 70. Sæpius bæc in vita, & potiffimum in mortis articulo a Mohammedanis recitanda, ibid.

G.

Ghazan, Præfectus Chorosanæ ante Taberum Züüljeminein. 5. 66.

Ghilan. Regio. 12. 100. ejus situs, descriptio, & divisio. ibid. bujus incolis lingua propria. ib.

### H.

 $H_{arrunürvaschid}$  Chalifa, inter filios Eminum, & Mamunum provincias, sibi subditas, partitur. 58.

Hafanus , filius Sabeli , Yrakæ gubernandæ a

Mamuno Chalifa præfectus. 61.

Hafanus , filius Zeidi , Alida , filium Abdullabi, Chorofana principis, Suleimanum in Tabaristana, prælio vincit. 12. 98. Tabaristanæ imperio potitur. ibid. auctor dynastiæ Tabaristanæ. ibid. Dschiordschiam armata sibi manu vendicat. 12. 103. Mehammedis, filii Taheri, Chorofana principis, exercitum, adversus se prodeuntem, fundit. 13.

Herat. Una ex pracipuis Chorosana urbibus. 9.88. ejus descriptio. 89. veterum Aria, & Mir-

choudii patria. ibid.

Heri rud. Fluvius, urbem Herat interfluens.

Hindiftan. Regio, cadem cum India. 160. Huseinus. Eunuchus Mamuni Chalifa, apud

eundem munere pincernæ fungens.

Huseinus, filius Taberi, acri obsidione a Chalefo premitur. 38. 154. in gratiam cum Manfuro , filio Nubi , redit. 38. ad debellandum Chalefum cum exercitu a Mansuro, filio Nubi, dimittitur. ibid. 156. Chalefum in arce Direk oppugnat, aft irrito conatu. 39. 157.

Hufeinus, parens Taheri Züüljeminein. 3. in

Chorofana vita functus. 57.

Hürfet. Urbs Kermaniæ. 45. 167. ejus de-

Scriptio. ibid.

Hürmüzd schehr. Nomen urbis, quæ eadem est cum Abmazo. 125.

## I.

lacubus Leifius, auctor dynastiae Soffaridarum, ærariam primum artem exercet, patris exem-plum secutus. 17. sub Salibio inclarescit. 17. 112. ejus religio adversus salem. 111. Sistania provincia expugnata, & pluribus subactis Chorosaæ

urbibus, urbem Kufendfeb capit. 12. 18. 102. 113. adversus Nischaburum castra movet, quam urbem in potestatem suam redigit. 13. 19. 119. 120. iter in Kermaniam perfequitur &c. 18. cum præfecto provinciæ Farsiæ prælium init. ibid. 116. ejusdem ad sciscitationem Mobammedis, filii Taheri, Chorofanæ principis, responsum. 14. Chalifæ varia dona Bagdadum fuhmittit. 19. Kabulum vi expugnat. ibid. Hafanum, filium Zeidi, a Mohammede Chorofanæ principe, repetit. 19. subjuganda provincia Farsia desiderio incensus prælium cum Mohammede, silio Wasilii init, ex quo victor decedit, supremus Farsia effectus dominus. 21. Bagdadum cum exercitu ire intendit, quo in itinere in morbum incidit, e quo decedit. 22. 127. ejus ad allatas a Chalifa reconciliationis literas responsum. 22. 127. ejusdem laudes ibid. 128. varia ejusdem facta, dictaque. 23. 24. 129. 130.

Jemame. Provincia Arabiæ cum urbe ejus-

dem nominis. 21. 125.

Jeminuddewlet Mahmudus, princeps dynafliæ Gaznavidarum, armis Siftaniam impetit.
A2. patruo fuo Beikara Hak affensium præstat,
Taherum, filium Chalesi, e Chorosana armis expellendi. 43. 165. Chaleso ob lætitiam, de Nafsireddini obitu ostensam, indignatur. ibid. Chalesum in arce Assebbud oppugnat. 44. propositum de expugnanda regione Nimruz mutat. 44.
166. Chalesum in arce Tak oppugnat. 47. eidem
victo varia signa henevolentiæ exhibet. 48. ejus
jusu Chalesus in aliquam regni sui arcem transfertur. 49. 169.

Jemini. Inscriptio bistoriæ cujusdam. 46. 167.
ejusdem bistoriæ recensio. 168. chronici bujus ex

Arabico in Persicum translator. ibid.

India. Regio. 39. 160. diversæ ejus divisio-

nes, ejusque situs. ibid.

Indichek. Mons in provincia Sistania. 79. Indus. Fluvius. 27. 139. varia ejusdem nomina. ibid.

Iran. Regio, sub Persidis nomine notior, ejus fines. 53. nomen ab Iredsch, silio Feriduni, mutuata. ibid. nomen Iraniæ minus recte bodiedum

Perfice tribuitur. 54.

Iredsch, silius Feriduni, Iraniæ bæres. 54.
Ismael, silius Ahmedis, princeps dynastiæ Samanidarum. 138. 139. belliducem Amru Leisti adversus se cum exercisu moventem vincit. 27. ipsum Amru Leistum, secum congredi cupientem, capit. ibid. 140.

Ispahan. Urhs Yrakæ Persicæ. 49. 170. ejus de-

Scriptio. ibid.

Islachar. Urbs antiquissima provincia Farsia. 24. 132. vetustissima ad eam ingentium substrutionum rudera. ibid. urbs bac Gracis olim Persepolis dicta. 133.

#### K.

Kabulum, & Kabulistan. Metropolis provinciae cognominis. 19. 118. urbis bujus descriptio. ibid. quinam ejus incolae. ibid. provincia veterum Paropamiso respondere videtur- ibid.

Katib. i. e. scriba Chalifatus, partes Chalifæ in precasione publica fundenda sustinens a tempore Errazi billah abuülahbas Chalifæ. 68.

Kazwin. Urbs Persiæ. 24. 131. secundum quosdam veterum Arsacia. ibid. a viris, tum stemmate, tum doctrina claris, celebris. 132.

Kelsun, silius Sabit, in Chorosana regiis tabellariis præsectus, eo tempore, quo Taherus Züüljeminein ejusdem sibi supremum dominium arrogarat. 5. Taheri Züüljeminein a Chalssa Mamuno desectionem per literas Bagdadum signisicat. 6.

Kermania. Provincia Persia. 18. 114. ejus

termini, vicissitudines. ibid.

Kubettül - islam i. e. turris , seu fornix Islamismi. Nomen bodiernum urbis Balch. 118.

Kubeftania. Provincia in Perfide. 43. 165.

ejus limites. ibid.

Kum. Urbs Yrakæ Persicæ. 8. 84. ejusdem situs. ibid.

Kurkandsch. Oppidum in provincia Dschiordschiana, idem cum Dschiordschian. 104.

Kufendsch. Urbs cum districtu. 12. 102. diversa urbis bujus uomina. ibid. ejus descripzio. 103.

## L.

Leisius, filius Ali, filii Leis, Soffarida, aliquot dierum princeps 34.

Leisins , pater Jacubi Leisii , Soffarida , fa-

ber ærarius. 17. 112.

Lotio mortualis apud Mohammedanos in usu. 6. 69. honoris caussa ab ipsis viris principibus peragi solita. ibid. M.

Maadil, filius Ali, filii Leifii, Soffarida, poft paucorum dierum regimen Bagdadum mittitur. 34. 147.

Magi, corumve cum Mohammedanis lites. 9. diversa horum nomina. 86. duplex magorum secta. 87. lege Corani apud Mobammedanos , si tributum folvant, a vexis immunes. 89.

Mahmud Warak. Nomen viri, Mohammedis, filii Taberi, Chorosanæ principis, munificentiam

experti. 14.

Malan. Oppidum in districtu Heratensi. 9. 90. Mamunus Chalifa , omnibus ab Hamadana ad ultimum orientem, a patre Harrunurraschid ex bareditate potitur. 58. Fratrem Eminum Chalifam dexteritate ducis sui Taberi Züüljeminein vincit. 57. 58. Bagdadum ob seditiones, Babylone ortas, ex Chorofana concedit. 3. 59. Tabero Züüljeminein, suasu potissimum Vezirii Abmedis, Abu Chalidi, Chorofanam gubernandam tradit. 5. mortuo Tabero Zuuljeminein, filium bujus, Ta-lebam, regendæ Chorofanæ fubstituit. 7. 76. Abdullabo , Taberi Zuuljeminein filio , Chorofanam gubernandam concedit. 8.

Mansurus, filius Nuhi, princeps dynastie Samanidarum , Chalefum , Siftania principem , binis vicibus principatui restituit. 37. 38. 153. Huseinum, selium Taheri, veniam sactorum petentem, in gratiam recipit. 38. adverfus Chalefum , fummam annuam folvere renuentem, cum exercitu Huseinum , filium Taberi , expedit. 38. 155. buic Abu Aliam Substituit. 39. 157.

Mecca. Urbs. ejus descriptio. 95. ob templum, quod in ea visitur, apud Mohammedanos summo

in bonore. ibid.

Medina. Urbs, regionis Hedfchaz in Arabia. 95. ejus antiquum nomen. ibid. apud Moslemos ob sepulcrum Mohammedis celebris, ivid. primi urbis bujus conditores. 96.

Meddinetul-Mansur i. e. urbs Mansuri. No-

men Bagdadi. 60.

Medinerus - felam i. e. civitas pacis, seu incolumitatis. Nomen Bagdadi. 60.

Moakal. Anmis , ex Tigride ductus. 124. Moafab. Avus Taberi Züüljeminein, 3.

Moatazus Chalifa , Suleimanum , filium Abdullahi, Chorosanæ principis singulari honore pro-Secutus. 12.

Moghaira, filius Schaabet, prafectus Baffo-

ræ, primus, qui Chalifas titulo principis cre-

dentium decoravit. 64.

Mohammedes , filius Abdullabi , Chorofana principis, exercitus Chalifæ præfectus, & vicarius ejusdem in terris Moslemicis. 11. a Mutewekilio Chalifa deficit. 91. Yrakas, & duarum facrarum Arabiæ civitatum princep. 12.

Mobammedes, filius Abdullahi, Chorofanz principis, Bagdadi instituendus a Chalifa Mo:tesimo susceptus, summo ibidem in bonore hale-

Mohammedes , filius Befchiri , dux belli Amru Leisii , Soffarida , infelix cum Ismaele , filio Abmedis, Samanida, pralium init. 27.

Mohammedes , filius Taberi , filii Abdullabi , princeps Chorofana. 11. infelix ejusdem cum Jacubo , filio Leifii , & Hafano , fi io Zeidi , Alida, pugna. ibid. in Jacubi Leifii potestatem devenit. 14. 105. ejusdem prac'ara fi i moderatio in amoribus. ibid.

Mohammedes, filius Wafil, Temini, provinciæ Farsiæ præfectus, supremum ejusdem sibi dominium arregat. 20. 122. inito cum Jacubo Leifio , Soffarida , prælio succumbit. 21.

Mohammedes , filius Zeidi , Alida , princeps dynastiæ Tabaristanæ, inbians Chorosanæ. 25.

136.

Mostæinus Chalifa. Chorosanæ principem ' Mobammedem, filium Taberi, filii Abdullahi, denominat. 11. 93. Mobammedem, filium Ab-dul'abi, Yraka, & facrarum duarum Arabia civitatum principem renuntiat. 12. Suleimanum, filium Abdullabi, ducem exercitus creat. ibid. Motamidus, Chalifa, iterata Jacubi Leisii

in Farsiam incursione offenditur. 19. Memfikinm cum instructo exercitu contra Jacubum Leisium

mistis. 21. 125. 126. Musa, filius Buga, gubernator Bassoræ &c. adversus Mohammedem , filium Wasilii , imperium Farsia affectantem, Abdurrabmanum cum exercitu ablegat. 21. Caussa est interritus Mubtadib billah Chalifa. 124.

Musa. Fluvius, urbem Rejam dirimens. 101. Mutewekilius Chalifa, Taherum, filium Abdullabi , in principatu Chorofanæ confirmat. 11. Mobammedem, filium, Abdullahi, exercicui pra-ficit, sibique in terris Moslemicis vicarium substituit. ibid. 91. Ayfam filium Mobammedis, castigari verberibus jubet, quod primos Moham-medis successores convitiis lacessierit. 11. 91. 92.

Mubridschan. Urbs, eadem cum Esferain. 154.

Nasr, filius Schebibi, infensissimus Chalifis ba-

resicus. 7. 77. Nassiriiddin Subukteginus, dynastia Gaznavidarum conditor, in India partibus bello sacro occupatus. 39. 159. Chalefo veniam factorum concedit. 39. 160. 161. simultates inter bunc , & Chalefum novæ. 39. 162.

Nimruz. Provincia, eadem cum Sistania. 36.

Nifchabur. Urbs Chorofana. 7. 80. ejus primordia. ibid. urbis bujus etymon nominis. ibid. quondam fedes Chorojanæ principum. 81.

Omarus, filius Chalefi, justu patris Kermaniam invadit. 40. infelix bujus ad confinia Sirdschian pugna. 41. patris Chalefi juffu occiditur. ibid.

Oxus. Fluvius. 27. 138. alio vocabulo Dfchihon nuncupatus. ibid. Græcis, & Latinis Ara-

xes dicitur. ibid,

### Ρ.

Peregrinatio ad urbem Meccam apud Moslemos, unum ex præcipuis quinque religionis Mobamme. danicæ capitibus. 136.

Princeps credentium. Titulus Chalifarum. 3.

Pyreum. Locus, ubi magi facris operantur. 9.

88. plura olim bujusmodi adificia. ibid.

Pyroclastæ, divinum se spiritum colere in perpetua ignis conservatione opinantur. 87. Mobammedanis exoft. ibid. 88.

K am. Olim provincia Sistania metropolis. 80. Reja. Urbs, & ditio Yrakæ Perfica. 12.101. urbis bujus conditor, & restaurator. ibid. ejusdem fata. ibid.

Ricca, Racca, Arracca. 70. duplex bujus nominis notio. 76. præfectura Mesopotamiæ ibid. hujus descriptiptio. ibid. nomen urbis in Diar Mozar. ibid.

Ruknabad. Fons prope Schirazum, a Persia poetis carminibus celebratus. 115.

S.

Salibius. Dux militia voluntaria adversus Chaeredschgitas, sub quo Jacubus Leisius, Soffarida,

inclaruit. 17. 112. Samira. Urbs Yrakæ Babylonicæ. 11. 92. ejus situs. ibid. a Motasimo Chalifa condita. ib.

Samfamüddewlet. Princeps dynastiæ Gaznavidarum, regni gubernacula Schirazi suscipit. 40. 164. Timur Tafchium catenis onerari jubet. ibid. sub ejus auspīciis ad consinia Sirdschian Omarus, filius Chalefi, vincitur. 41.

Sapor, monarcha Persia, a quo nomen urbs

Nischabur accepit. 81.

Sara. Oppidum Tabaristanæ. 20. 122. ejusdem conditor Tabmurazus, vetuftus Persiæ monarcha. ibid.

Schabiftan. Nomen Perfice. 55.

Schehriftan. Urbs Kubiftaniæ princeps. 165.

Schiraz. Urbs cum territorio amplo in provincia Fars. 18. 114. quis ejus conditor. ibid. a claris in oriente scriptoribus celebris. ibid.

Segberi, libertus Amru Leisii, ob lites cum Tabero, principe Sistaniæ babitas, prælium init,

& victor decedit. 34. 146. 147. Selem, filius Feriduni, tractum Romæorum cum Africa, & Italia parte ex hareditate adeptus. 53.

Senam. Mons Basræ vicinus. 124.

Series rerum. Titulus biftoria auctore Abiiulferedsch benüldschiuzi. 33. 145. 146.

Serfchek. Nomen pyrei duabus parafangis ali

urbe Herat siti. 89.

Sirdschian. Urbs Kermania. 41. 164. ejus munimentum ab Harrunirraschid exstructum. ibid.

Siftania, Sedschestania Nomen provincia. 7. 79. alio nomine Nimruz compellata, ibid. ejus

descriptio, & fata. 79. 80. Soffarida. Nomen familia, qua devictis Ta-beridis in Chorofana, & aliis Persia provinciis imperium obzinuit. 17. familia istbac nomen suum a Leifio Soffar (i. e. faber ærarius) dicto, accepir. 106. diversa de familia bac auctorum sententia, ibid. 107. quot annis Soffaridarum dy. nastia durarit. 148.

Sogbdus. Fluvius, urbem Bucharam præterla-

bens. 149. ejus fontes. ibid.

Suleimanus , filius Abdullabi , præfectus Tabaristana, post infelicem cum Hasano, filio Zeidi , pugnam dux Moslemici exercitus. 12.

Tabaristana. provincia Persia. 12.96. ejus etymon. 97. varia de bac provincia sententia. 96.

Tadfcbik. Nomen Perfix. 55.

Taberidæ. Nomen gentile familiæ, in Chorofana regnantis, ex qua quinque numero supremum dominium iu eadem tenuere. 14. 56. a quibusdam minime regibus accensentur. 57. quot annis familiæ bujus regimen durarit. 74.

familiæ bujus regimen durarit. 74.

Taherus, filius Abdullahi, a Wasekio Chalifa
imperium Chorosanæ obtinet. 10. Taharistanæ Suleimanum, filium Abdullahi, præsicit. 12.

leimanum, filium Abdullabi, præficit. 12.
Taberus, filius Chalefi, jussu patris, cum magno militum numero versus Kermaniam movet. 42. inito cum Deilemidis certamine victor discedit. ibid. In Kubestaniam cum exercitu a patre Chalefo ire jubetur. 43. a Beikara Hak præsio vincitur. 43. 165. patri Chalefo refractarius. 44. Kubestaniam subigere contendit. ibid. ejus fata. 45. mors. 46.

Taberus, filius Huseini, vicario Chalesi nomine gubernator Sistania. 37. 153. exercitui Mansuri, filii Nuhi, resistendo impar in Esserain se recipit. 37. 153. altera vice Sistauiam in-

vadit. 38.

Taberus, filius Mohammedis, delapso in captivitatem Amru Leisso, Sistaniæ princeps eligitur. 32. 145. in prælio, cum Seghero, liherto Amru Leissi, inito, succumbit. 34. 146. hreve ejusdem

regimen. ibid.

Taberus Zuüljeminein, filius Huseini, 3, auctor dynastiæ Taberidarum. 56. dux exercitus Mamuni, Alin, belliducem Emini Chalifæ, prælio vincit. 61. Mamunum occiso Emino Chalifam renunciatum Bagdadum comitatur. 3. 61. Yrakæ, mox vero Mesopotamiæ, Tsuguræ, & Syriæ gubernaudæ a Mamuno præsicitur. ibid. Chorosanæ præesse jubetur. 5. supremum bujus dominium sibi arrogat. 5. 71. Chalifæ Mamuni nomen in precibns publicis prætermittit. 5. 68. variæ austorum de annis regiminis Taberi sententiæ. 72. cur ambidexter distus. 6. 74. ejus encomium, ibid.

Tak. Arx Sistania. 47. 168. ejus descriptio.

Taleba, filius Taheri Züüljeminein, princeps Chorosanæ. 7.76. Hamezam, motus in Sistania excitantem, pugna devincit. 7.

Tigris. Fluvius. 11. 93. unde nomen accepe-

rit. ibid. ejut fontes. ibid.

Tir. Fluvius, idem cum priori. 93.

Transoxana regio. 26. 137. a Persis Turan compellatur. ibid. ipsius limites, & primariæ urbes. 137. 138.

Turan, filius Feriduni, China, & Turki-

staniæ bæres a patre renuntiatur. 54.

Turcæ, propago Tatarorum. 65. varias turbas in fuccessionibus Chalifarum excitant. 66. Turcarum exercitus Chorofanæ sub Mamuno Chalifa imminet. 5. 65.

#### V.

Vini usus apud ipsos Chalifas frequens, licet per Coranum vetitus. 62.

#### W.

Waschius Chalifa, eundem, quem antecessores, Abdullaho, filio Taheri Züüljeminein, honorem impendit. 9. Taherum, filium Abdullahi, Chorosanæ præsicite 10. quo tempor. mortuus. 90.

Waser. Urbs Yrakæ Babylonicæ, 25. 134. quo tempore exstructa, ibid. urbis bujus diversæ

causse denominationis. 135.

### Y.

Yraka. Provincia. 11.94. duplex ejus notio. ibid. Yraka Arabum, Yraka Persica. ibid. Yraka Arabica limites, ibid. alia bujus vocabula. ibid.

## Z.

Zerendsch. Metropolis Sistania recentior. 80. Zewra i. e. obliqua. Nomen Bugdadi. 60. Zul Chowaise. Austor sesta Charidschiorum. 78.

# Emendanda

### in versione latina & notis.

```
Pag. Lin.
                  Lege
                                                             Lege.
Pag. Lin.
                  adde. Ali , filii.
 8 5 de cæde
                                           37 18 in margi. H. -- H. 353.
— 17 Abdullabii
                 adde. filii Taberi.
                                           38 24 Bagdadum
 9 3 Abdullabo
                  adde. filio Taberi.
                                                             - Bucharam.
 - 12 annis octo - - annis septendecim.
                                           39 20 Seifeddin
                                                             - - Seifuddewlet.
- - quinque supra - octo supra.
                                           40 29 Omarum
                                                             -- Amrum.
                adde. filio Taberi.
10 10 Abdullabo
                                                 Omaru
                                                             -- Amru.
                                           46 8 a
                 -- Omarum.
                                                              -- ex
II 14 Amrum.
- 15 laceffitum. - - laceffitos.
                                           - II Abmed Taberum -- Taberum.
                 adde. lufui.
                                                 NB. in notis ad marginem a pag. 53. ufqu.
12 5 aft fimul.
                                                 ad pag. 64. pro pag. 1. & 2. fubstitue
                 -- milit.
15 8 mifit
                  adde. filius Nafirii.
17 18 Salibius
                  adde. fervus Salibii.
                                                              - - multa.
- 20 Leifins.
                                           80 16 mula
                 - Derbemus.
18 1 Salibius.
                                           - 26 ek'af
                                                             -- ektaf.
                 adde. & me tuis ereptum.
22 14 meis
                                           92 21 Iracam ad
                                                            - ad Iracam Babyle-
                  adde. quinquaginta mi-
24 24 aureorum
                                                  Babylonia
                                                                   mia.
                         nas mulci.
        millia,
                                          100 30 hac eadem
                                                               - quæ hac eadem.
                  adde. & Siftania.
26 6 Kermaniæ
                                          102 14 filii
                                                             —— filii.
32 21 filius
                  -- filit.
                                          122 19 Tahmurazo
                                                             -- a Tabmurazo.
34 9 fexto
                  -- fexto.
                                         124 33 septingenta -- septingentas.
                  -- fex.
- 15 fex
                                                             - - numerant.
                                          138 4 numerat
36 23 Omari
                  -- Amru.
                                        *142 - temporibua -- temporibus.
```

#### In texctu orientali.

ظفر الجد بن الجد المرابق المر

AND AND AND A THE PROPERTY OF AN ARTHUR AND AN ARTHUR AND AN ARTHUR AND ARTHU





هرچه تامتر درآن بقعه روزی بشب میبرد و بعد ازآن مکنوباتی که با ایلك خان نویشته بود ظاهر شد و سلطان اورا جهت مصلحت مملکت بقلعه از قلاع فرستان واورا در آن قلعه بسر مي برد تا وعده عف در رسيد و سلطان محمود بفرمود تا تركه و اورا به پسرش ابو حفظ دادند در ترجه مینی به این عبارت مذکوراست که امیر خلف از اکابر ملوك جهان بود معروف بكرم وسخاوت طبع وكمال افضال و وفور مجة و جلال و انعام او در باره اهل علم وارباب هنر شايع و مستغيض و شعرآء جهان بدح و اطراي او زبان كشاده و مأثر او در افواه خاص و عوام افتاده علماء عصرو فضلاء دهر راجع كرد تا در تفسير قران مجيد وكلام نا مخلوف باري جل جلاله و تصنيفي مستوفی کردند مشتمل بر اقاویل مفسران و تأویل متقدّمان و متأخران و بیان وجوه قراعت و علل نحو و اشتقاف لغایه مشحون بشواهد امثال و ابیات و ابرام و اخبار و احادیث باز میکفتند که بیست هزام دینام از سرج بر مراعات مؤلفان ومصنفان آن كتاب اتفاف افتاده بود واين تفسير دم مدرسه صابوني به نيشابور محرون بود تا حادثه اعر دم شهور سنه خس واربعين و خسایه روی اود وامروز آن نسخه بتمام و کال در اصغهانست درمیان کتب آل خجند متع الله السلمين بقائيم واين ضعيف مصنف برحت ابو الشرف ناصح بوقتي كه بوطن مترعج وبا صغهان مقيم مد تها برياض آن تفسير مستأنس وازانوارمكنت ودقايت آن مقتبس بود وآنكتاب صد جلد است بقطع حال که عربام در انتساخ آن مستغرف شود و تحصیل آن خبر بسالهای فراوان مكن نكردد تام شد سخن مصنف ترجمه ييني در باب خاف بن

انصار خلف تلف کرد و بقیده خلایف بحصار اندرونی کریختند و سپر مكاوحت در سركشيده دست بجنك و بيكاريم آوردند وخلف از براي مطالعه این و اقعه و مشاهده این حادثه از موضع خویش بیرون آمده دید که عرضه ومین بعفاریت انس و شیاطین و شرموج زنه و هان فیل در برابر چشم او سواري را تخرطوم از روي زمين در ربود و مقدار دو نيزه بالا در هـوا انداخت و چون به نشیب آمد اورا بدندان بدو نیـم کـرده و خلف از ملاحظه این حالت نزدیك برود كه بیهوش كردد از غایت خوف و رعب کالبد او از روح تهي شود ولا جرم بفرياد آمد وامان خواست و سلطان از کرمی که در طیبت پاك او مندرج بود خلف را امان داده شمشير انتقام در نيام نهاد وخلف دست بجوايز مواهب وعطيات بركشاده خودرا به پیش اسب پین آلةوله محمود انداخت و اورا بسلطان خطاب كرده يين آلدوله را اين لفظ محمود بغايت خوش آمد ومبتهج و مسرور كشت بعد از آن خلف محاسن سفید خود را بر خاك باركاه مالیده چندان درو جواهر نثار کرد که شعاغ آن بر نور آفتاب غالب آمد و درطی کتاب عتاب و نشر جناے عفو و مرحت و مغفرت مبلغه غود وسلطان در اکرام قدرو تمجیل محل خلف نکنه مهمل نداشت و اورا در بر کرفته رقم نسیان بر سوابق وحشت كشيده حكم فرمود كه خزاين قلعه و فخاير آنوا بهرجا كه خواهد نقل كنند و خدمتش را درمقام و مسكن مخير كردانيد تا در مالك سلطان بهر بهاکه خواهد متمکن و متوطن کردد و دروفق مراد وطبق مرام روزکار کذراند و او بسبب موافقت آب و هوا موضع جوز جانان اختبار کرد و سلطان محمود خلف را به احترام و عزاز به آن ناحیه روان فرمود و او مدّت چهار سال

خفایا و خنایا پیش خواند و طایفه از خواص خویش را دم کمین نشاند تا بوقت وصول چون خیل زنان بر پرامن جرعه در آیند و چون طاهم بر بالین پدر حاضر کشت اهل عذر طاهر را بکرفته و محکم بسته در مطوره باز داشتند و بعد از چند روز اورا مرده از حبس بیرون آوردند و کفتند از غایت ملال طاهر خودرا هلاك كرده طاهم بن زينب و ديكم قواد و امرا که آن حالت مشاهده کردند ضایر ایشان بر مخالفت خلف قرار کرفت و سرايرآن جاعت بر عداوت او استقرار پيدا كرد عصابه عصيان به پيشائي باز بستند ودار آلاماره خلف را متصرف شده خطبه و سکه بنام و لقب سلطان محمود غزنوي مشوف و مترین کردانیدند و عرضه داشتی تحضرت سلطان ارسال نوده از كافي حالات اعلام دادند والتماس نودند كه رآيات عليه بــدآنصوب نهضت غاید سلطان ملتس ایشان را مبدول داشته عزیت برجم ماديء قتنهء خلف مضم كردانيدند و درآن اوان خلف بن احد در قلعه عطاف مقیم بود و آن قلعه هفت فصیل داشت که ساکنان بروج هريك ازينها سنباهء فلك ميجيدند و زمزبهء ملك ميشنيدند و خندقي بعید آلغور بکرد آن کشیده بودند و چون سلطان قلعدع طاقرا مخیم لشکر ظفر انجام کردانید عساکر کردون مآثر در اندك فرصتی بلكی بيك روز عوجب فر مان درختان را بریده کندف افکندند وخاك بر ان معتند تا انباشته شد و دم راه سوام و پیاده پدید آمد و خیول و فیول سلطان در حركت آمده بهدم آن حصار روي آوردند و در استخلاص حصار طاف نطاف بستند و اصحاب خلف بقدم مخالفت پیش آمدند فیلی که معظم افیال بود در قلعهرا از جای بر کنده در هوا اندا خت و جعی از عوان و انصار

اسیر کرده مقید باخود هراه آورده بود کفت که اکر شما مدد و معاون من باشيد تا خلف را ازين ملكت بيرون كنيم شارا رخصت دهم تا بولايت خويش بروید آنجماعت باوی اتفاف نوده جنکهای مردانه نودند و خلف شکست يا فته دريكي از قلاع متحصن كشت و چون طاهر با خلف معاش پسنديده میکرد و هر چند خلف از قلعه کسان فرستاده مردم را با خود دعوت کرد فایده نداد آخر آلامر از درحیله و مکر درآمده بطاهر بیغام داد که مرا بغیر از تو فرزندي نيست و خوف آن دارم كه هلاك شوم و اموال من بدست بیکانکان افتد باید که تنها نزد من آیي تاهدرا بتو نشان دهم و طاهر بتصور آنکه خلافی در وعده و خلف نیست خبر بپدر فرستاد که در فلان وقت بهاي قلعه حاضر خواهم كشت وخلف جعيرا دركمين باز داشت و دروقت مقور طاهر بیای قلعه حاضر کشته خلف از حصار فرود آمد و پسررا در بغل کشیده کریان شد و مردم از کین بیرون آمده طاهررا بکرفتند و بوجب فرمان اورا مقید ساختند و خلف اورا نیز بدست خود کشته تغسیل و تكفين كرد و در ترجه عيني اين حكايت بوجهي ديكر مسطور است چه در آن تاریخ مذکور است که در اثناء مراجعت سلطان محبود از دیار هند خلف بن احمد طاهر پسر خویش را بر سریر سلطنت نشانده مفاتم خزاین باو سپرد و مقالید مالك بوي تسلیم نود و خود منزوي شده روي يعبادت آورد و از ملك استعفا نبود تا مكر بوسيله اين حيله كاس يأس بر درد و جور سلطان ازو در کذرد و چون مدتي برين حال بکذاشت از کرده پیشمان شد و بر ترك ملك ازمنصب حكم نادم و متحیر كشت تا حیله بر انکیخت و تارض نوده پسر را از بهر تجدیده صبت و اطلاع دادن بر خفايا

سلطان محمود احاصره او مشغول شده خلف در مضيّف آن حصار بيقرار كشت و چاره و كارجز تضرع و تخشع نديد و سايل انكيخته سبلغ صد هزار دینار زیسن با تحف و پشکشهای دیکر ایثار کرده در مقام اعتذار و استغفار آمد و سلطان هر چند بر استخلاص ملك نيمروز و استصفاء آن نواحي جازم بود امّا درآن اوان بنا بر مصلحت وقت و نبّت غزوي كه در ضيم داشت عنان بر تافته متوجه دیار هند کشت و در سنه و احدی و تسعین و ثلثمایه طاهم ولد خلف متوجه كرمان شد و سببش آنكه بعد از رفتن سلطان از سیستان میان طاهم و پدرش خلف نزاعی پدید آمد و طاهم عصیان خلف اظهار کرد و بینهما محاربات واقع شد و طاهر مغلوب کشته روی بکرمان نهاد وچون بدان حدود رسید مشغقان با ابو موسی که از قبل بهاء آلدوله بن عضد آلدوله دیلمی حاکم آن دیار بود کفتند که طاهر زیاده شوکتی ندارد و پیش از آنکه قوت کیرد همت بر دفع او مصروف باید داشت ابو موسى بسخن ايشان التفات نكرد واهال واغفال ورزيده خلقي بسيار در ظل رآیت طاهم مجتمع کشتند و بعد از اجتماع لشکر طاهر بقهستان مراجعت کرده تجهیز اسباب ترفیه ایشان قیام نبود و چون سپاه او معمور کشت روي محرفت آوردوخواست كه باقي ولايت كرمانرا در تخت تصرف آورد ابوموسي باجعی کثیر از دیاله بجنك طاهر آمد و بعد از تقارب قسین دیاله منهزم شدند طاهر دیار کرمانوا مسخم کردانید و چون این خبر مسموع بهاء آلدوله كشت استاد هرمزرا با طايفه و ازاتحاد و احتياط بدفع آن حادثه نامزد فرمود واستاد هرمز متوجه طاهر شد وبي استعمال آلات حرب طاهر عنان عزيت بصوب سیستان تافت وچون بآن نواحي رسید باعیان دیاله که ایشادرا

تسليم خواهيم كرد استاد هرمز جهت دفع آن حادثه متوجه ببودسير شد و چون بآن موضع نزدیك رسید سیستانیان كوج كرده بولابت خود رفتند و بعد ازآن عین آلدوله محمود بن سبکتکین بجانب سیستان لشکم کشید و باعث برین قضيه آن بود كه بين آلدوله محمود در زماني كه مركز خراسان خالي كذاشته باوراء آلتهم رفته بود خلف طاهر را بقهستان فرستاد وطاهر از آنجا متوجه خراسان شده فوسنج را در حوزه عصرف آورد و درآن زمان حکومت فوسنج و هراة تعلّق ببقراحق عمم بين آلدوله محمود ميداشت و چون پادشاه از آن يورش بازكشت بقراحف رخصت طلبيد تا طاهر را از مملكت محروسه بيرون کند و دستوری یافته روی باو نهاد و طاهر نیز از فوسنج بیرون رفته صف قنال بيآراست وبعد ازكشش وكوشش طاهر منهزم كشته بقراحف ازعقب او ميرفت واتباع اورا مي كشت رحل واثقال مي بستد و ساغر چند شراب خورده بود کال سرحوشی و مسرت ضمیمه غرور دولت کشته از مراسم تحقظ و تيقظ غافل مانده اسب مي تاخت كه ناكاه طاهم عطفه عناني كرده بــه بقراحت رسیده بیك ضربة از پشت زینش در روي زمین زد و از اسب فرود آمد سر اورا از مرکب بدن جدا کرد و بر اسب خود سوار شده روی به قهستان نهاد و اسباب توحّش سلطان محمود دیکر آن بود که بسامع علیه و او رسانیدند که درآن هنگام که خبر فوت آمیر ناصر آلدین بکوش خلف بن احمد رسید اظهار بشاشست کرد و بالجمله چون اسباب یورش سلطان بجانب سیستان آماده شد در شهور سنه و تسعین و ثلثمایه رایات نصرت آیات او بآنجانب حرکت فرمود و خلف در حصار اصفهبد که ابر در دامن حضيضش خيمه زدي و ستاره ع پيرامن اوجش طواف كردي متحصن كشت و سلطان

رسانیده خود بغسل وی قیام نود و هم بنفس خویش برو ناز کذاریده فرمان داد تا در قلعداش دفن کردند و صمم آلدولت بعد از اندك فرصتی عباس را از حکومت کرمان معزول ساخته استاد هرمز را بضبط آن دیار فرستاد وخلف بن احدرا توقم آن شد که استاد هرمز بولایت او تعرضي رساند بنا برين مكنوبي پيش استاد هرمز ارسال كرده در تشيد مبانىء مصالحه مبالغه مود بعد ازان خلف بن احمد قاضي سيستان ابويوسفرا كه فاضل صالح متعبّد بود ومعتقد جع خلایت آن ملكت برسم رسالت پیش استان هرمز فرستان تا أمر مصالحه را قراری دهد و معتبدی مصحوب قاضي كردانيده قدر زهر بوي داد وكفت بعد از ملاقات ابو يو سف قاضي با استاد هرمز اين زهررا بقاضي ده تا تخورد و در ميان خلايف افشاكن كه استال هرمز قاضي را هلاك ساخت وآن نا خلف بوخب وصبتت خلف بکرمان رسید این عل نا پسندیده بجای آورده برحماره سوار شده به سیستان آمد و صورت حال را بروجهی که تلقین یافته بود تقریر کرد و خلف اصول و اعیان ملکت را جع آورده خون قاضی را از دیاله می باید طلبید و بر هکنان و اجب است که درین باب سعی بلیغ نایند اهالیء سیستان فریاد و فغان بر آورده کفتند سمعاً و طاعتاً و خلف پسر خود طاهر را با جعی کثیر از مردم آنولایت بحدود کرمان فرستاد و در آن اوان معظم لشكر ديلم در زماميه بودند و طاهر متوجه آن جانب شد و با ديالــه جنك كرد و لشكر سيستان غالب كشته ايشان به بودسير رفتنه وطاهر از عقب رفته سه ماه ایشانرا محاصره کرد و دیاله بتنك آمده باستاد هرمز مکنوبی فرستادند مضبون آن که اکر مدد تو با رسد فبها والا بود سیر ralus

با تحف ديكر پيش أمير ناصر آلدين فرستاده عذر خوافي أود أمير ناصر آلةین معذرت او پذیرفته رقم عفو بر جریه او کشید و بار دیکر میان او و سبكتكين وخشتي روي نوده ابو آلغتم بسطي بزلال موعظت آتش خشم أمير سبكتكين را تسكين داده چون خلف در ملكت مستقل كشته خزينهء او ازمال بسیار معمور شد هرس کرمان بر خاطرش استلا یافت امّا بواسطهء آنکه میان او و عضد آلدولت مبانیء عهود و پیمان استحکام یافته بود اینمعنی را از قوت بغعل نیآورد و بعد از وفات عضد آلدولت در اوان كه عصم آلةولت در شيراز ككومت اشتغال مينمود خلف بن احد عرو پسر خودرا بکرمان فرستان و عرو ناکاه بدان ولایت رسید و تیبور تاش كه از قبل دياله والى آنجا بود بالصّروره كريحته ببروه سير رفت و صمصم آلةولت ازين قضيه آكافي يا فته ابو جعفر را با جعي فرستاه كه تيمور تاش را بكير چه بسمع او رسيده بود كه ميان او و برادرش بها آلةولت محبّت و موّدي بوده و ابو جعفر ببروه سير آمده بحيله و تدبير تيمور تاش را كرفته بند كرده بشيراز فرستاد وخود بحاربه، پسر خلف توجه نود و عرو نيزاز مقام خويش درحركت آمده ميان هردو فريق ملاقات اتفاف افتاد و بعد از قتال وجدال ابو جعفر منهزم كشت و چون اين خبر بصمصم آلدولت رسید عباس بن احمد را با سپاهی شمشیر زن و نیزه کذار بجنك عمو نامزد کرده عرو نیز باستیصال عباس شتافته هردو کروه در حدود سیرجان بهم رسیدند و عرو بهزیت رفته اکثر امرآء او اسیر شدند و عرو چو کر خته بسیستان رسید خلف در غضب شده اورا ملامتها کرد و به این اکتفا نکرده فرمان داد تا عرو را مقید و محبوس کردا نیدند و بعد از چند روز پسر را بقتل مسانيده

حصین درین قلاع بود متحصن کشت و مدّت هغت سال حسین اورا در آن قلعه محاصره کرد و چون مهتی از پیش نرفت منصور سامانی ابو علی بن سیمحور را که از قبل او والی خراسان بود بکفایت مهتم خلف نامزد فرمود و حال آنکه میان ابو علی و خلف پیش ازیب بنای صداقت مشیّد بود ابو علی بر ظاهر بقلعه نزول کرده در خفیه کسی نزد خلف فرستاد مسلحت آنست که ازین حصار بقلعه و دیکر انتقال کنی تا مارا در مراجعت بهانه و با شد چون باز کردیم تو دانی خلف ملتس ابو علی مبذول داشته از قلعه و درك به قلعه و طارق رفت و ابو علی محصار در آمده آذرا ضبط داشته از قلعه و درک به قلعه و طارق رفت و ابو علی محصار در آمده آذرا ضبط نود و از آن وقت باز خلل در ملك سامانیان براه یافت چهامرا کما بجب شرایط نیکو بندگی بجا نمی آوردند و ملوك اطراف طع در مملکت ایشان میکردن

ذكر آنچه ميان خلف بن احمد و أمير ناصر آلدين سبكتكين و پسرش سيف آلدولة محمود واقع شد

نوبتي ناصر آلدين سبكتكين بغزاي هندستان رفته بسط از وجود شريف او خالي ماند و خلف بن احمد چون ميدانست فرصت غنيمت شرده به بسط راند و خراج يكساله بستد و جعيرا بحافظت آن قلعه باز داشته بسيستان رفت و چون أمير ناصر آلدين از ممالك هند مراجعت نهود كماشتكان خلف از بسط بيرون رفتند و ازين جرأت نليره خشم أمير ناصر آلدين زبانه زدن كرفت و خلف بن احمد چون ميدانست كه مرد ميدان او نيست مال بسطرا دا تحف

برسم جایزه سیصد دینار نزد من فرستاد و در سنه فلث و خسین و ثلثهایه خلف بن احمد بحج رفت و طاهر بن حسین را که از خویشان او بود در سیستان به نیابت خویش کذاشت و چون شربت حکومت در مزاج طاهـر خوشکوار افتان خلف را بعد از مراجعت از مکه در سیستان راه نداد و او ببخارا رفته از منصور بن نوح ساماني استبداد نود و منصور لشكر جرار در مرافقت او بسیستان روان کرد و طاهر چون تاب مقاومت لشکر نداشت از سیستان باسغماین رفت و خلف در ملکت نیمروز متحین کشته سپاه منصور را کسیل کرد وچون طاهر بن حسین دانست که لشکم تخام بوطن خود رفت بجانب سیستان توجه نود و خلف باز پیش منصور سامانی رفت منصور شرایط تعظیم و تکریم بجای آورد بار دیکر اورا با اسباب سلطنت روانه و دار آلملك ساخت و پیش از وصول خلف بسیستان طاهم مرده بود و پسرش قایقام او شده و خلف بقصد رسیده حسین در شهر متحصن کشت و دم ایام محاصره خلف بسیار از طرافین بقتل آمدند عاقبت حسین به تنك آمده مسولی بمعام فرستان و بزبان حضوع وخشوع بیغامها داده امان طلبیده و منصور جهة او امان نامه فرستاد که بیرون آید و هیچکس تعرض او نشود و مجوع ایشانرا روانه بمخارا کنند وچون آن نامه بحسین رسید حسین باتباع خویش ببخارا رفت و منصور سامانی اورا در کنف حمایت و رعایت جای داد و چون مدتی از حکومت خلف بکذشت در ادای وجهي كه تقبل كرده بود كه هر ساله ببخارا فرستاد تعلل غودن كرفت منصور سماماني ازين حركت در غضب رفته حسين بن طاهر را بالشكر آراسته بجنك او فرستان و حسين چون بسيستان رسيد خلف در حصار درك كه

حصين

بیرون آمدند و منصوربن اسحف از حبس رهای یافت حسین بن علی کنود نزدیك کردانیده حکم فرمود که دربانان و حاجبان مانع نشوند تا هرکاه که خواهد بجلیس در آید و ابن خفار قصد کرد که حسین بسن علی را بکشد حسین از این قضیه آگاه شده ابن خفارا بکرفت وچون احمد بن اسمعیل دانیست که سیستان فتح شد سمجور زوای را که محکومت آن مملکت نامزد کرده حسین بن علی را طلب داشت و حسین عرو بن یعقوب و بن خفار را کتود نزدیك کردانیده فراه بخارا برد و بار دیگر ملك نیمروز در حوزه دیوان سامانیان آمد و تازمان ظهور خلف بن احمد در سیستان خطبه بنام سامانیان میخواندن

# ذكر حكومت خلف بن احمد

بعضي از مؤرخان كفته اند كه خلف نبيره يعقوب بن ليث بود وابن اثير كويد كه مادر خلف بانو دختر عرو بن ليث است و بر تقدير صدف اين قول بايد كه احمد پدر خلف پسر يعقوب بوده باشد ليكن هيچ كس از مؤرخان قايل نشده اند كه يعقوب پسري داشته از بديع هداني مرويست كه در قصيدة آلاميّه خود خلف را بهر دو پادشاه يعني بيعقوب و عرو منسوب ساحته و بالجله خلف بن احمد بصفات كامل از علم و فضل و كرم و سخاوت و محبّت علما و مودت فضلا آراسته بود و شعرا در مدح او قصايد قراكفته اند ابو آلفتح بسطي كويد من در مدح خلف سه بيت كفته بودم و قصد داد اند ابو آلفتم بسطي كويد من در مدح خلف سه بيت كفته بودم و قصد آن نداشتم كه باو رسد انها آن ابيات در افواه افتاده بسم شريفش رسيدند و

محتد بن عرو لیث صفار لیث علی بن لیث و برادرش معدل چند روزی کر و فری بودند امّا چون دولت صفاریّه بنهایت انجامیده بود ایشانرا نیسز کرفته و بند کرده ببغداد بردنــــد

TO - OF

ذكر خروج عرو بن يعقرب بن محمد بن عرو بن ليث صفاري درسنه عثاثمايه سيستانيان اظهار مخالفت احمد بن اسمعيل ساماني كردند وسببش آن بود كه محمد بن هرمزسيستاني خارجي كه درآنجا بسرمي برد و پیرکشته روزي نزد ابو آلحسين علي بن محتد بن عارض رفته مرسوم طلب کرد ابو آلحسین با او کفت ضعف و شیخونیت بتو راه یافته مناسب چنان مینهاید که کوشه کیری و بعبادت مشغول شوی محمد بن هرمز انرین سخن دیر خشم شده متوجه سيستان كشت وباجعي ازخوارج سيستان كفت وظيفه آنست كه ما منصور بن اسحف ساماني را از شهر اخراج كنيم و از نسل صفاريان كسي را برخود حاكم كردانيم كه حكومت سيستان حق ايشان است وخوارج سررضا جنبانیده محتد بن هرمر با عروبن یعقوب بیعت کرد و محتد بن عباس راکه ابن خفارش میکفتند و رأس و ریس خوارج بود در نهایت جرأت وجلاوت با خود متنفق کردانید و عرو مستظهر شده خروج کرد و منصور بن اسحف سامانی را کرفته در قلعه از قلاع محبوس کردانیدند و در ولایت نیمروز خطبه بنام عرو بن يعقوب خواندند و احمد بن اسمعيل برين حادثه اطلاع یافته حسین بن علیرا بالشکری بدفع آن قضیه نامزد فرمود و حسیان متوجه شده نه ماه سیستانرا محاصره کرد و در این اثنا محتد بن هرمز وفات يافت عرو بن يعقوب وابن خفار از روي عجز و اضطرار امان خواسته بيرون

روي طاهر چون بر مضمون نامه اسمعيل اطلاع يافت راه سيستان پيسش كرفت درمتناظم مذكور است كه طاهر هدايا نزد اسمعيل فرستاده التماس نود که از خلیفه در خواهد تا بعضی از مالک ابا و اجدادش را به مقاطعه بازدهد اسمعيل هداياء طاهر قبول كرده رسولي جهت قبول ملتمس طاهر بدار آلخلافت فرستاد واعلام داد که طاهر چه تحفه فرستاده و خلیفه شفاعت اسعیل سامانی قبول کرده بیغام داد که اکر هر عاملی از اعال ما صد یك آنهقدار كه طاهر پیش او فرستاد ارسال ناید رضاي ما بآن مقرون خواهد بود و خليفه جهة طاهر عهد نامه و جامه فرستاده طاهر از سیستان بشیراز رفت و در ربیع آلاول سنه و ثلث و تسعین و ما بتین ابو قابوس که یکی از امرای طاهر بود با جعی کثیر ببغداد رفت و سبب این معنی انکه طاهر بعیش وطرب و صید مایل شده متوجه سیستان کشت و لیث بن علی بن لیث صفار و سکبری غلام عرو لیث بشیراز آمده میان ایشان و ابو قابوس کفتکوی واقع شده ابو قابوس کوفته خاطر شد و متوجه دار آلسلام بغداد کشت خلیفه اورا با ملازمان بخلعت کرانایه سرافراز کردانید بعد از آن طاهر نامه تخلیفه نوشت مبنی بر آنکه ابو قابوس از اموال مقاطعه مبلغي تصرف كرده اورا پيش من فرست يا آن اموال ازوي بكير خليفه جوابنامه ننوشت و التفات بسخن او نكرد و درسنه عست و تسعین و مایتین میان طاهر و سکبری غلام عرو وخشتی روی نوده مهم محاربه انجامید و طاهر مغلوب شد و سکبری اورا با برادرش یعقوب اسیر کرده ببغداد فرستاد و مدّت دولت او نیز بانقراض انجامید در تاریخ بناکیتی مذكور است كه زمان سلطنت او شش سال بود و بعد از كرفتاري طاهر بن

و آنوا تخزينه خواهم سپرد و احتياج نيست كه مرا به جرايم ناكرده متهم و منسوب سازي عرو در جواب كفت كه درين هي سخن نيست كه عقلي بكهال داري و محتد بن بشير نقودرا تسليم خزينه نوده عرو ازوي راضي كشت آورده انه نوبتي عرو ليث لشكريان خودرا فرمان داد كه با اسلحه و دواب خويش بروي عرض كننه وخود در صحرا نشسته سپاهيان يكيك از پيش او ميكذاشتند و او تفخص مينبود تاكدام اسب و صلاح به اسب كدام ملازم فربه درين اثنا شخصي از لشكريان بر اسبي لاغر نشسته از پيش او بكذشت عرو كفت طايفه عيس عجب انه از سپاهيان كه زنان خودرا فربه ميسارنه و اسبانوا لاغر نكاه ميدارند آن شخص اين سخن را شنيده از اسب فرو آمد و اكر باور نيست اورا نيز عرض كنم عرو از اين حديث بسياري خنديد و او را بنوارش و احسان توانكر كرداني—د

فكر حكومت طاهر بن محمد بن عرو بن ليث صفار

چون عرو لیث در سر پنجه و قضا اسیر کشت امرا و اعیان دولت او در ولایت سیستان طاهر را بر تخت پادشافی نشاندند و او با لشکر کران بفارس رفت عامل خلیفه را از آنجا بیرون کرد و از فارس متوّجه جانب اهواز شد و خلیفه عبد آلله بن فتح را با هدایا و تبرگات بیش اسمعیل سامانی فرستاده اروی آلتماس نمود که لشکری بدفع طاهر فرستاده اسمعیل مکتوبی به طاهر فرستد مضمون آنکه خلیفه سیستانرا بتو داده وظیفه آنکه بدان صوب

D

تمام زندگانی میکردند با عرو یکچشم بود و بغایت قهاروقتال و اورا عاملی بود در فارس ابو آلحسین نام نوبتی ازو در خشم شده گفت برو و جمیع املاك خودرا فروخته بهاي آنرا تسليم من ناي وعامل بموجب فرموده عل نموده عرو باز با او كفت كه اكر در مدت سه روز صد هزار درم بدهي فبها وال فرمايم تا تراكرهن بزنند وابو آلحسين نزد ابو سعيد كاتب شخص را فرستاده التماس نمود که ضامن او شود تا از محبّس خلاض کشته در اداي وجه جد و اجتهاد نماید ابو سعید ضامن ابو آلحسین شده خدمتش از حبس بیرون آمده هرچند سعی نمود مبلغ مذکوررا سر انجام نتوانست کرد و بعد از سه روز پیش ابو سعید رفت صورت عجز خویش تقریر کرد و کفت آمده ام که مرا بموكلان سپاري ابو سعيد اورا بمحبّس فرستاد و عرو از آن قضيّه اكاه شده كفت ندانم كه ارضانيت ابو سعيد كاتب تعجب كنم يا از مراجعت ابو آلحسين آنكاه رقم عفو بر جريمه ابو آلحسين كشيده اورا رها كرد نقلست كه عرو چند كاه انبانهاي خالي بر شتران باركرده با خود مي برد و هيچكس نميدانست که حکمت در آن چیست ناکاه برافی غیر معهود متوجه استیصال بعضي از اهل عصیان شد و درآن طریف رودخانه بیش آمد که عبوراز آنجا امکان نداشت عرو فرمود که انبانهارا پر از سنک کرده در آن رودخانه افکندند تا بغایتی که از آب بر آمد آنکاه خاک بسیار براطراف آن رکتند و در میان رودخانه رافی بدید شده عرو و لشکریان او از آنجا بکذشتند کویند که از حجاب و خواص عرو کسی به اعتبار محتد بشیری بود و عرو روزی با او کفت که جرایم تو بسیاراست و آغاز تعداد آن کرد محتد بر فور سوکندان غلاظ و شداد بر زبان آورد که زیاده از پنجاه بدره زرندارم و آنرا

بشهر در آوردند و در آن زمان که چشم معتضد بروی افتاد کفت شکرمر خدایرا که ترا بدست من داد و کفایت شغل تو کرد آنکاه فرمود که اورا در محبّس باز داشتند در نهایت حال او اختلافست برخي کفته اند که معتضد درحین وفات سرهنکی را فرستان تا اورا بکشت و بعضی کویند که در مرض معتضد هیچکس یاد او نکرد تا از کرسنکی هلاك شد و روایتی آنکه خالیفه در حالت نزع صاحب حرس را طلبیده اشارت بکشتن عرو كرد و صاحب حرس چون دانست كه معتصد فان زمان وفات خواهد یافت دامن مصمت خودرا بخون او آلوده نساخت و چون مکتفی بر سریر خلافت نشست حال عرو پرسید کفتند که زنده است خرم شد که بسیار کرم و نیکویي از وي دیده بود و میخواست که در عوض آن مرحت و احسان بتقديم رساند قاسم وزير چون دانست كه مكتفي نسبت عرو ليث در مقام عنایت است بنا بر عداواتی که با او داشت کسان فرستاد تا عرو را کشتند وبا مكنفي كفتندكه ما چنان مي پنداشتيم كه عرو در زمره و احياست چون تفحص کردیم خلاف آن ظاهر شد مدّت سلطنت او بیست و سه سال بود در تاریخ بناکتی مسطور است که از اثآر عرو مسجد عتیف شیراز است آورده اند که یکي از عادات عرو لیث آن بود که غلامان خورد خريدي وكما ينبغي ترتيب ايشان كردي و چون بزرك مي شدند آن جاءت را بامرا مي تخشيد ودست ازرعايت ايشان بازنمي داشت تا آن ممالك مجبوع حالات مالكان خودرا در خفيه بعرض عرو ميرسانيدند وامرا چون ارقضيه غلامان بيخبر بودند كان ميبردند كه جعي ازجنسيان ملازم پادشاه اندكه اورا از احوال نهاني اعلام مي نهايند و به اين جهة در جيع اوقات باحتياط

که با عرو لیث زیاده صفایی نداشت با ده هزار سوار که اکثر ایشان رکابهاء چوبین داشتند بعزم محاربهء عرو لیث از جیحون عبور نمود و عرو با هفتاد هزار سوار جرار متوجه اوشد و چون در برابر هم صفهارا بست کردند اسب عروکه بغایت تند و سرکش بود در جولان آمده اورا بصف دشمن رساتید و بی آنکی خونی رکته کردد اسعیل غالب کشت و مردم عرو روی بهزیبت نهادند و عرورا در خیمه محبوس کردند و یکی از فراشان او بر عرو بكذشت عرو اورا بخواند وكفت جهة من خوردني ترتيب كن فراش مقداري کوشت بدست آورد ودر سطل آب کرده در زیر آن آتش برافروخت و به طلب چوپك رفت اتفاف سكى آمده سردر سطل كرد و دهانش سوخته سرتعجيل برآورد و دستهء سطل دركردنش افتاده مي دويد و سطل را مي برد عرو از مشاهده و این صورت در خنده افتاد یکی از خاراسان با او کفت که چه محل خنده است عرو جواب داد که امروز بامداد خوانسالار من شكايت ميكرد كه سيصد شترادوات مطبخ را بزحت ميكشند وشبهنكام ملا خظه ميكنم كه سكي آنرا بسهولت مي برد بعضي كويند كه عرو ليث را پيش اسمعیل آوردند اسماعیل رویش ببوسید و کفت تو برادر عزیزی و خلعت فاخر به او داده سوكند ياد كرد كه هيچ اڏيتي بتو نرسانم وچون بجانب ما ورا آلنهر مراجعت کرد اورا با خود هراه برد و بعد از کرفتار شدن عرولیث اسمعیل رسولی بدار آلخلافت فرستاده از کیفیة حال اعلام داد و معتضد خلیفه کفت رحت بر اسمعیل و لعنت بر عرو باد و بعد از آن ایلچیان پیش اسمعیل فرستان تا عرورا تسلیم ایشان نماید و اسمعیل اورا برسولان عتبه علافت سپرد و چون عرورا به نواحي بغداد رسانيدند بر شترش سوار كرده بشهر

و چون خبر رسید که آیالت ولایت ماورا آلنهر از دار آلخلافت مغوض عروليث شده خدمتش محتد بن بشيرا كه يكي ازمعتمدان بلكي ازخواص اوبود باسیاهی جرار بجنك حاكم آن دیار اسعیل سامانی فرستاد و اسعیل از جیمون کذشته در برابر مخالفان صف قتال آراسته و بعد از ستیز و آویسنر محمد بن بشير كشته شد و لشكرش انهزام يافته بعمرو پيوستند و عرو تهيده اسباب محاربه نمود که خود به جنگ اسمعیل رود و هرچند امرا مانع آمدند كه مصلحة نيست لشكري بفرست مفيد نيفتاد وچون عرو ليث به بلخ رسيد اسعیل با او بیغام داد که حق عتر وعلا ملکتی عظیم و وسیع بتو ارزانی داشته و من طع درآن نبي كنم و به اين سرجة قناعت كرده ام اكنون توقع چنان است که تو این کوشه بین کذاری که اندك جایی است عروقبول نکرد وازراه پنج آب روانه شد و اسمعیل نیز در حرکت آمده از آب عبور کرد ودر برابر خراسانیان بنشست و عرو با لشکر بسیار نه بیش توانست رفت و نه مجال مراجعت داشت وبه اندك فرصتي لشكريان اوروي بهزيبت نهادند ودر حین انهزام با عرو کفتند که مصلحت چنان است که تو از راه بیشه مرجعت نمایي عمرو لشكر براه راست روانه كرد خود به بیشه در آمد و اسب او در کلزاری افتاده اندك نفری که با او بودند خدمتش كذاشته رفتند و جاعتی از سپاه اسعیل از عقب رسیده اورا بکرفتند در بعضی از توانریخ مسطور است که اسمعیل سامانی باغوا و تحریص معتضد خلیفه

و درهم پیشوای لشکر او مجروح شده عرو لیث و بقیة آلسیف جان از آن مهلکه بیرون بردند و بغدادان غنیمت فراوان کرفتند عرو به فارس رفت و این خبر بسیع موفق رسیده بیش از آنکه عرو در شیران متمین کرد روی به آن صوب نهاد و عرو چون دید که طاقت مقاومت او ندارد بکرمان رفت و از آنجا متوجه سیستان شد و از سیستان تخراسان شتافته میان او و رافع بن هرشه كهدرآن اوان خروج كرده بود وخطبه بنام محتد بن زيد آلعلوي خوانده محاربة و اقع شد و عاقبت عرو ليث بر رافع ظفر يافت سر اورا به بغداد فرستاه و بدین حرکت خلیفه از عرو لیث راضي شده فرمود که نام او در علمها نوشند و در سنه و بهانین مایتین خلیفه جاعت حجاج خرسانرا جع ساخته فرمان داد که منشور امارت خراسان و ماورا آلتهر و فارس و كرمان و سيستان راكه بنام عرو بن ليث نوشته شده بود بر ايشان خواندند و در سندء ست و ثمانين و مايتين هداياء عرو راكه انرخراسان فرستاده بود بعرض خلیفه رسانیدند و از جله و هدایات بتي بود نرزین که جهام دست داشت و دو کوشواره و مرضع در کوش او کرده بودند و این بت را در کاوي نشانیده بود ند که قاست او موازی قاست شتر جمازه بود و آن صورت را تخست تخانه معتضد خليفه بردند وآنگاه برجانب شرقي بغداد بر موضعي كه شحنكان شي نشستند نهادند و بعد از سه روز تخارنان سپردند

# ذكر حكومت عروبن ليست

چون يعقوب بن ليث وفات يافت برادرش عرو متصدي امرحكومت شد و عرضه داشتي بپايه، سرير خلافت مسير ارسال داشته اظهار اطاعت و انقياد نمود و از دار آلخلافت منشوری فریشناده حکومت عراف عجم و حراسان و شحنكي بغداد به او ارزاني داشتند و عروخلافت خليفهرا قبول كرده عبد آلله بن طاهر را از قبل خود به شحنكي دار آلاسلام فرستاد وخود بقروین رفت و از آنجا متوجه ری شد و در آن ولا عامل فارس محمد بن لیث که نایب عمرو بود اظهار عصیان نمود و عمرو بنا برین متوجه آن صوب شده با محمد بن لیث حرب کرد و اورا منهزم کردانیده باصطخر رفت و از اصطخر بجانب شيرانر عنان عريبت معطوف ساخت و چون در شيرانر قرار كرفت سيصد هزار دينام و پنجاه من مشك و پنجاه من عنبم و دويست من عود وسيصد طاف جامه منقش بنقشهاي غريب وسيصد ظرف از نقره وطلا و سیصد چهار پای برسم هدید به نزد موفق فرستاد که برادیر صاحب اخيار خليفه بود و در سنهء احدي و سبعين و مايتين اهالي خراسان ازعرو ذرد خليفه شكايت كردند و خليفه حاجبان خراسانرا طلبيد وبا ايشان كفت كه من عمرو ليثرا از خراسان معزول كردم شا بايد كه بروي لعنت كنيد بعد از آن ساعد بن مخلد با لشكري كران از وسط بموجب فرمان متوجه حرب عروليث شد و بعد از تلاقي هردو فريف محاربه عصب روي نمود وأز طلوع آفتاب تا هنكام زوال نايره عقتل اشتغال داشت و عاقبت نسيم عنایت بر پرچم رآیت لشکر خلیفه وزیده صد نفر از امراء عرو بقتل آمدند ودرهم

کے زیدہ بود و هریکي را جاتي نرزین داده که هریك از آن هزار مثقال داشت وهچنین هزار جاف از نقره بهزارکس دیکر داده بود و این چاقهارا آن مردم در اعیاد و محافل بدوش مي نهادند و هیچکس برا وقوف بر اسرار وي نبود ودر اموم ملك با هيج كس مشوّرت نبي كرد و چون دوشن او بهزيمت ميرفت از لشكريانش كسي مجال آن نداشت كه بي رحضت او دست بغارت و تاراج بر آورد ودر پس خیمه و او خیمه نصب میکردند که غلامان خاصه و او در آنجا بسر ميبردند و هركاه كه اورا كاري بودي يكي از علامانرا آوانر دادي تا آن مهم كفايت كردي و هر روز در مطبح او بيست كوسفند در بني ديك مي بختند اوّل حصّه غلامان دركاه جدا ميكردند و آنكاه به خواص قيست مي نمود روزي يكي از ايلچيان با او كفت كه تو داعيه پيشواي داري و در خيمه و تو غير ازين پلاس كه بران نشسته و صلاحي كه پوشیده هیچ چیز نیست یعقوب جواب داد که بهر طریق که سردار معاش كند نوكران بران نهج زندكاني كنند از غرايب حالات كه از يعقوب نقل میکنند یکی انست که بسمع او رسانیدند که ابو یوسف یعقوب بن سفیان در عثمان عفان سنجري طعن ميكند يعقوب ليث فرمود كه ابو يوسف را حاضر آوردند تا سیاست کنند وزیر کفت ایها آلامیر او در عثمان عفان سنجري طعن نمیکند بلکه نسبت به عثمان عفان و صحابی سخن میکوید یعقوب كفت اورا رهاكنيد كه مرا به صحابة كاري نيست مدّت سلطنت يعقوب بن ليث ياز ده سال بود

فراهم آورده متوجه دار آلسلام شد ودر راه برنج قولنج کرفتام آمده طبیبان هرچند کفتفد حقنه مي بايد قبول نکرد وکفت مرک بر من آسانتر از احتقان است و درآن بیماری رسول دارآ لخلافة نزد او رسیده استمالت نامه و منشور ولایت فارس آورده یعقوب شمشیری و قدری نان خشک و پیانر بیش خود نهاد و رسول را طلب داشته با او کفت که خلیفه را دعا برسان و بكوكه يعقوب ميكويد من خسته ام اكر بميرم هم تو از دست مين خلاص شده باشي و هم من انر تو و اكر بزده مانم ميان من و توشمشير است ميزنم تا آن برمان كه غالب شوم وكام خود برانم اكر غلبه ترا بود من این نان و پیار بسازم و ترک حکومت کنم ایلچی بار کشت و هنور بدار آلخلافة نرسيده بود كه يعقوب وفات يافت و او بغايت زيرك و عاقل بود وسیاستی و سخاوتی بکمال داشت هرکس بیش او برای خدمت آمدی اكردر نظرش پسنديده بودي حال او بپرسيدي كه صلاح شوري ميداند و تير انداري نيز ودر شمشير زدن بصاري دارد و بعد از آن آروي سؤال كردي که درین مدت با که بسر دردی و ملازمت که کردی ودرکدام معرکه مبارزت نموده ع آنكاه حكم فرمودي تا يك ساله ما يحتاج او از مأكولات و ملبوسات و غير آنها بوي دادندي و آن شخص اكر بيش از انقضاي يكسال ديكر چزي طلبيدي فرمان دادي تا آنچه به او داده اند استرداد نمايند و مجوع اسبان متجنده ملک او بود مکر اندکي و عليف چهار پايان از خاصه ع خود میداد و تخت چوبین بلند جهت خود ترتیب کرده بود که چون بر آنجا نشستي بر تمامت لشكر مشرف بود و اكر از اوضاع لشكريان چزي در نظرش نا پسند آمدي حكم كردي تا بتغير آن قيام نمايند و هزار مرد جلد از سپاهي كزيده

ذكر استيلاء يعقوب ليث بر مملكة فارس و محاربهء او با موفق برادر خليف

چون محتد بن و اصل تميمي عامل فرس شده برآن ديار مستولي كشت موسي بن بوغاكه از دار آلخلافت حكومت بصره و اهواز و يامه و فارس به او متعلق شده بود عبد آلرحن بن مفلح را به جنك ابن واصل فرستاد و اودراهواز خبر لشكر بغداد شنيده از آنجا به استقبال ايشان روانه شد ودر راه فريقين را اتفاف ملاقات افتاده حرب صعب روي نمود و محمد بن واصل غالب كشته ابن مفلح در پنجه عقدير اسير و دستكير شد و هرچند خليفه بیعام به ابن واصل فرستاد که عبد آلرحمن بن مفلح را بکذار مقبول نیفتاد و چوں این خبر به یعقوب بن لیث رسید طبع مملکة فارس بر ضمیرش استيلا يافته متوجه آن صوب كشت و بعد از قطع منازل بنواحي فارس رسیده میان او وابن واصل مهم بمقابله و مقاتله انجامید و یعقوب لیث غالب کشته ابن واصل نقد حیات از کرداب فنا بساحل نجات کشید و یعقوب بر مجروع مملكت فارس مستولي كشته علم دولت او به آوج آسمان رسيد و چون درآن ولایت مستقل کشت عزیمت بغداد نمود خلیفه منشور حکومت خراسان وطبرستان وفارس را بیش یعقوب فرستاد تا باز کردد و چون رسول دار آلخلافت نرد يعقوب رسيد كفت من بامثال آنها راضي نبي شوم البته ببغداد مي آيم و معتمد خليفه اين خبر استماع نموده برادر خود موفق را با لشكري تمامًا به استقبال يعقوب روان كرد و بعد از محاربه كيله و مكري که در تواریخ مسطور است بعقوب لیث منهزم کشت و باردیکرسپاهی سنکین فراهم

بامان نزد یعقوب آمد و یعقوب اورا به اقارب و عشایر که صد دو نفر بودند بند کرده به سیستان فرستاد و در خراسان نواب خویش نصب فرموده آنگاه متوجه طبرستان کشت تابه حسن بن زید علوی محاربه غاید و سبب آن بود که عبد آله سنجري که از يعقوب کريخته به نيشابور نود محمد بن طاهر رفته بود و چون خبر توجه يعقوب معلوم كرد ازآن موضع نيز فرار ټود بحسن بن زيد علوي پيوست چنانجي سبت ذكر يافت و يعقوب رسولان پیش حسن فرستاده اورا طلب داشت و حسن بدان سخن تنفذ نشد و یعقوب ازین معنی در خشم شده لشکر بجانب او کشید و چون بساری رسید حسن بن زید با لشکری آراسته در برابر دشمن صف آرای کشت و يعقوب غالب شده حسن بكركت و بر زمين ديلمان رفت و يعقوب از جانب ساري بجانب آمل شنافت و خراج يكساله بسته و از آنجا متوّجه ولايت دیالم شد تا از حسن باردیکر انتقام کشد ودر راه چهل شبانه روز متعاقب باران باریده مقدار چهل هزار مرد از لشکریان یعقوب تلف شدند و خدمتش بد حال بازکشت رسولي پيش خليفه فرستاد که من طبرستان را فنح کرده حسن بن زیدرا منهزم سختم و بدین سبب چشم میداشت که منظور نظر عاطفت خليفه كرده امّا خليفه حكمي بجانب حاجبان خراسان و ری و طبرستان فرستان مضمون آن که ماقبل ازین یعقوب را سحکومت سیستان نصب کرده بودیم و اکنون او اظهار عصیان و ترد نوده باید که شما بي تحاشي لعنت كنيد و اين حكم بنابر آن صورت يافت كه مسموع خليفه شدكه يعقوب بن ليث به نيشابور آمده وآل طاهر را كرفته و بند کرده به سیستان فرستاده اس

50

درهم بخدمت خلیفه مشغول شد و بعد از غیبت درهم یعقوب بدرجات عليه ترقي كرد و به دفع فتنه عوارج پرداخت و ياران و ملازمان يعقوب چنان فرمان او می بردند که مزیدی بر آن متصوّر نبود چون یعفوب از ضبط سیستان فارغ شد لشکر بخراسان کشید و در آن سال نریاده فنحی مبسر نشد لاجرم به سیستان بازکشت تا بار دیکراز سر استظهار متوجه كردد ودر سنهء ثلث و خسين و مايتين چنانچه مذكور شد باز بجانب خراسان توجه نوده هراة وفوشنج را بكرفت آنكاه بجانب كرمان نهضت فرموده كماشتهء حاکم شیراز که بحکومت آن دیار اشتغال مینمود بکرفت و از آنجا بطرف شیراز بروان شد و بوالی فارس محاربه کرده اورا نیز بدست آورد و ده بانر سغید و ده باز ابلت و صدمن مشك و دیكر تبركات به بغداد فرستاده تخلیفه بیغام داد که من مطیع و منقاد توام بعد از آن به سیستان بازکشت وحاكم شيرازرا بند كرده باخود ببرد و در سنهء سبع و خسين مايتين بارديكر يعقوب بغارس رفت و درين نوبت خليغهء بغداد معتمد به او بيغام داد که چون ممکلت فارس بتو نداده ایم جهت چیست که زمان زمان لشکر بدين جانب مي كشي و موفق برادر خليفه صاحب اختيار و مرجيع مملکت بود رسولی پیش یعقوب فرستاده حکمی روان کرد مضمون آنکه آیالت ولايت بلخ و طبرستان و سيستان تعلّق به يعقوب ميدارد بايد كه متوجّه آن صوب کردد و یعقوب از فارس مراجعت غوده و قطع منازل کرده به بلنج رسید و از آنجا با لشکري کران متوجه کابل شد وکابل را درتخـــت تصرف آورده حاکم آن مملکت اسیرو دسنکیر کشت و بعد از آن بهراة رفته بران دیار مستولی کشت و از هراه بجانب نیشابور شنافت و محمد بن طاهر بامان

لیث پدر یعقوب رویکری بود در سیستان و سه پسر داشت یعقوب و عرو على وهر سه پسرش حكومت كردند الما حكومت على زياده استدادي نيافت ويعقوب نيز درمبداء حال رويكري كردي وازآن صنعت هرچه بدست آوردي کودکادرا ضیافت نودي و چون به س رشد و تیز رسید جعتي از مردم جلد مخدمت او کهر بستند و براه نردن مشغول شد تا اسباب سرداری مرتب سازه و در آن باب شرط انصاف نکاه داشتی و به اندك چيزي از تجار و آینده و رونده خرسند کشتی و درسنده سبع و ثلثین و مایتین که خرا سان و توابع آن بطاهري بن عبد آلله متعالف بود شخصي از اهل نسب كــه اورا صالح بن نصر كفتندي بتقلب بر ملكت سيستان مستولي كشت ويعقوب لیث نوکر صالح مذکور شد و درین اثنا طاهر بن عبد آلله لکشری فرستاد تا صالح را از نواحی سیستان براندند و بعد از آن قصیه درهم بن نصر خروج کرده سیستان را بکرفت و لشکر طاهر را از حواليء سیستان بیرون کرده چون در هم صبط سپاه كها ينبغي تغضي ني توانست نود يعقوب ليث زا عهده امير لشكر ساخته وچون متجنده عجز وضعف درهم مشاهده كرددد پیشوای و سرداری یعقوب را بقدم اقبال تلقی نوددده درهم نیز ضبط و ربط اموررا برأي ورؤيت او معوض كردانيد در كامل التواريخ مذكورست كه حاكم خراسان حيلتي انديشيد! تا بر درهم ظغر يافت و اورا كرفته ببغداد فرستاد و خلیفه مدتی محبوس داشت و بعد از آن اورا مهاکرده درهم

پیش او نهاد و محمود بر خواسته تخانه که جاریه در آنجا بود در آمد و باكنيزك كفت كه برخيز و جامه ببوش و استعداد رفتن به خانه و اميركن كه ترا میفروشم جاریه چون این سخن شنید فریاد از نهاد او بر آمد و کریه و زاری بروی چنان مستولی کشت که آواز وی بسیع امیر میرسد محمود کفت که ای جاریه موجب این همه قلف و اضطراب چیست باید که اظهار فرح و سروركني زيراكه چون تو بدولت سراي امير روي بيوسته در راحت وآسايش باشي و نصيب من از فراف تو الم و غم باشد كنيزك جواب داد كه اي خواجه آخر کار من اینست که مرا از خود جدا سازی محمود کفت که ای معشوقه جز تو در دست من از متاع دنیا چیزی نانده و تو کرسنکی و بر سنکے میکشی این فکر کردم تا باقی عر به فراغت و خوشد لی کذرانی جاریده جواب داد که از سر بیع من در کذرکه من عهد کردم که بکسی که لأیف عورات باشد جهت تو و خود مدّت آلعمر قوتی حاصل کنم محمود کفت اکر چنین است من ترا آزاد کردم و به نوزده دینار و نیم ترا در حباله فكاح آوردم چون محمد بن طاهر اين ماجرا شنيد محمود را طلبيده كفت این چهار بدره سیم به تو تخشیدم تا بعد ازین برفاهیت روزکار کذرانی و دست بر دامن افشانده بر خواست و ذکر جمیل خویش در عالم بیادکار

رسول بازکشته به نیشابور رسید خواص محتد بن طاهر و عیان آن و لایت قاصدان پیش یعقوب فرستاده اظهار اطاعت و انقیاد کردند و بالاخرة محتد بدست یعقوب کرفتارشده دولت طاهریّه انقراض انجامید و ایشان هم پادشاهان نیك اعتقاد رحیم دل هنر پرور بودند و خراسان در ایّام حکومت آن طبقه در نهایت معموری وآبادانی بود و شاعری اسامی آنجمعات را درین دو بیت مندرج ساخصصت

بیت درخراسان رآل مصعب شاه طاهر و طلحه بود و عبد آلله باز طاهر دکر محتسد آن کو به یعقوب داد تخت وکلاه

وازهده و سخاوتهاي محتد بن طاهريكي اينست روابت كرده اند كه در نيشابور شخصي بود محبود وراف نام و او جاريه داشت در غايت حسن و جال و غنج كه شعر خوب كغتي و بربط نيكو نواختي و او صاف اين كنيرك بر مع محتد بن طاهر رسيده بودند و به غايت شيغته و او بود چون هوس اختلاط كنيزك بر ضمير محتد استيلا يافت بكرات كسان پيش محبود وراف فرستاده آن جاريه معتندرا به بهاء كران خريداري كرد و چون محبود به آن تعلقي داشت به بيع و شراي آن مطربه و مرغو به رضا نداد و چون مدي برين قضيه كذشت و هرچه محبود داشت مصروف آن كنيزك شد هر دو محنت بينواي ميكشيدند و از كاس جغا و دستنكي شربت بي بركي محبشدند عاقبت محبود كس نزد امير محتد فرستاد كه جاريه را مي فروشم محبت بغايت مبتري و شادمان شد با چهار بدره سيم مخانه و محبود رفت و امير محتد بغايت مبتري و شادمان شد با چهار بدره سيم مخانه و محبود رفت و

رفت و در رسنه عسبع و خسین مایتین حسن بن زید علوي لشكر به جرجان كشيده برآن ولايت مستولى كشت محمد بن طاهر چون براستلاء حسن اطّلاع یافت مال بسیار بلشکریان داد ایشان را به جنك او فرستاد وحسن بن زید لشکر خراسان را شکسته و اموال و غنایم فراوان از آن جاعت بکرفت و محمد بن طاهر ضعیف شد چه اکثر بلاد خراسان را یعقوب لیث کرفته بود و ولایت جرجان را تاری حسن بن زید متصرف کشت و در آن ایام طايغه و العيان ولايت سيستان كريخته بودند و التجا بدرگاه محتد بن طاهم برده درآن جله احمد فضل و برادرش بودند و هر چند يعقوب ليث اللچيان فرستاده ايشانرا طلب داشت امير محمد اجابت نكرد واين معني موجب ازدياد وحشت شده درسنهء تسع و خمسين و مايتين يعقوب ليث قاصد نیشابور شد احد فضل این خبر شنیده بابرادر خود بدار آلامارت رفت تامحة بن طاهر از اين واقعه آگاه سازه حاجب كفت كه اميم را غيتوان ديد زيراكه درخواب است احد فضل كفت كسي مي آيد كه اميررا بیدار کند و احد و برادرش از انجا پیش عبد آلله بن صالح رفتند و او نیز از یعقوب کر کته کذمت محمد بن طاهر رفت و چون صورت احوال با او كفتند دانست كه محمد بن طاهررا غفلت يافته است ودولتش به آخر رسيده لاجرم احدرا نجانب ري فرستاد و خود بوكب حسن بن زيد علوي پيوست و چون توجیه یعقوت بن لیث نرد محمد بن طاهر محقف کشت ایلچی پیش او فرستاده بیغام داد که بی فرمان امیر بکجا می آیی اکر منشوری داری بنما تا امثال ناییم یعقوب مضمون رسالت معلوم کرده شمشیر از زیسم نیام بیرون آورد و به ایلچی کفت که حجت و منشور من اینست و چون رسول

نوشت که عیسی را بکیرد و چندان تاریانه بزند که بیرد و بعد از مردن اورا در دجله اندارد و محتد بوجب فرموده عل بود و طاهر بن عبد آلله در خراسان به حکومت اشتغال مینمود تادر زمان خلافت مستعین بالله دران ولایت وفات یافسست

ذكر حكومت محتد بن طاهر بن عبد آلله بن طاهر

چون خبر مرك طاهر بن عبد آلله مسبوع مستعين كشت امارت خراسان به پسرش محمود تغويض نبود و محتد بن عبد آلله طاهر را بر عراف عرب و حرمين امير ساخت كويند كه محتد بن طاهر بغضل و ادب موصوف بود و به لهو و عشرت و طرب بغايت مايل ودرايام دولت خويش آيالت و لايت طبرستان را به عم خود سليمان بن عبد آلله بن طاهر داد و در شهور سنه احدي و خسين مايتين حسن بن زيد آلعلوي كه مرد فاضل و شاعر بود در آن ولايت خروج كرد وبر أكثر بلاد ديام وكيلان مستولي كشت و سليمان بن عبد آلله انروي منهن مده بري رفت و از آنجا به بغداد شتافت و مستعين اورا صاحب شرط كردانيد و بعد از مستعين متعتر نيز اورا حاحب شرط كردانيد و بعد از مستعين متعتر نيز مايتين و فات يافت و درين ولا يعقوب ليث بعد ان ضبط سيستان بعضي از ولايت خراسان را متصرف شده بعد از اندك مدّ ان شمط سيمتان بعضي از ولايت خراسان را متصرف شده بعد از اندك مدّ ان شكر به هراة كشيد و عامل محتد بن طاهر را از آنجا بيرون كرد و فوشنج راكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهر را از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهر را از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهرا از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهرا از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهرا از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهرا از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار كشيد و عامل محتد بن طاهرا از آنجا بيرون كرد و فوشنج براكد دردار

B

آن قضیّه کشتند چون برحقیقت حال اطلاع یافتند ازهراه به نیشاب و فته بعرض عبد آلله رسانیدند که درایام دولت تو چنین حیفی بر ما واقع شده اکنون بتظلّم آمده ایم و امید میداریم که داد ما بستانی عبد آلله بن طاهر فرمان داد که از حقیقت آن مهم استعلام نمایند چون امنا در مقام تغتیش و استبخسار آمدند چهار هزار پیر معمر از نفس شهر هراه و قری آن بلده مجتمع کشته کو افی دادند که ما مدّه آلحیوه این را بهمین نبده کیشیه که حالا و اقع است دیده ایم و قبل ازین درین موضع ند آتشکده و نه مسجد دیکر بوده و درین شهادت ثواب طبع داشتند

## فكر حكومت طاهر بن عبد آلله بن طاهر

چون خبر وفات عبد آلله بن طاهر بخلیغه رسید طاهر بن عبد آلله را بر مجموع عالی که پدرش متصرف بود والی کردانید و هریك از برادران اورا بنصبی اختصاص داده تربیت فرمود و چون مدّت دوسال از حکومت طاهر بن عبد آلله بگذشت واثف بالله به سرای آخرت رفته متوكل بر سریر خلافت متمکن کشت و جهت طاهر عهد و لوا روانه داشت و در سنه سبع و ثلثین و مایتن طاهر برادر خود محتد بن عبد آلله را به بغداد فرستاد متوكل اورا صاحب شرط بغداد کردانیده در اعال دار آلسلام نایب مناب خود ساخت ودر آن ایام بعرض متوکل رسانیدند که عیسی بن محتد بس جعفر بن محتد بن عاصم که یکی از متعیان بغداد بود ابو بکر و بروعایشدرا دشنام داده است متوکل از سامره بحتد بن عبد آلله بن طاهر را عروعایشدرا دشنام داده است متوکل از سامره بحتد بن عبد آلله بن طاهر را عروعایشدرا دشنام داده است متوکل از سامره بحتد بن عبد آلله بن طاهر را

نوشت

نسيشست بجهة عبد آلله بن طاهر عهد و لوا قر ستاد و پسر او محمدرا در بغداد تربیت فرمود تا از جله معتبران درگذشت و چون محتد بن عبد آلله رحلت کرد متعصم بروی نازگذارد و درسنه و سبع و عشرین و مایتین متعصم فوت شد پسرش الواثف بالله متصدي امر خلاقت شد واو نيز در تبجيل و تعظيم عبد آلله دقيقه عممل نكذاشت و عبد آلله بن طاهر در شهور سنه فالثين و مايتين نقد حيوة را بقابض ارواح سپرد و مدت حكومت او در خراسان هغده سال برداشت عرش بقولي چهل و هشت سال بود عدل و سخاوت بي نهايت داشت و يغايت اديت و فاضل بود اشعار عربي خوب دارد شعرا درباره و او تغريه و مرافي مي كفتند چون قلم مشكين رقم بدين مقام رسید حکایتی بخاطر گذشته ثبت افتاد آورده اند که درایام حکومت عبد آلله بن طاهر جعي از مجوس در هراة مقارن مشجدي آتشكده داشتند و چنانچه در شرع شریف مقرر است جزیه میدادند و هیچکس متعرض ایشان ني شد روزي يکي از واعظان که در قريه و مالان و عظ میکفت در اثناء وعظ فرمود که درین شهر مسلمانی ضعیف است و مؤید این مقال آنکه مسجد و آتشکده متصل یکدیکر واقع شده و اهل اسلام در دفع این صورت اهمال و تعافل سینمایند از این کلمات عرف غضبت مسلمانان در حرکت آمده و حلقي کثير اتفاف کردند چون شب شد در تخریب مسجد و آتشکده سعی نوده از عارت آن دو موضع آثار نگذاشتند و در هان شب مسجدي جديد بجاي آن مسجد و آتشكده طرح انداختند مجوس چون صباح از خواب غفلت سر بر آوردند از آن مسجد قديم و آتشکده و خویش نشانی ندیدند و حیرت بدماغ ایشان راه یافته متفقص خلیفه درین باب مضایقه نفرمود و بالجله در زمان حکومت طلحه حزه نلمی در ولایت سیستان خروج کرد و طلحه بدان جانب لشکر کشید و بعد از محاربات بروی طفریافت و سیستان را مضبوط ساخته بخراسان باز کشت و در سنه و ثلث و عشرو مایتین طلحه بیمار شده رخت بولایت دیکر کشید و علی بن طلحه که پسرش بود قایقام او کشته جعی بروی خروج کردند و او در نواحی نیشابور با مخالفان محاربه نوده کشته شد

## ذكر حكومت عبد آلله بن طاهر ذو آليمينين

در آن اوان که عبد آلله بغرمان مأمون در دینور بتهیده اسباب مقاتله بابك خرم دین مشغول بود خبر خروج خواج و قتل علي بن طلحه ببغداد رسید و مأمون بعبد آلله ببغام داد که بخراسان رود بدفع مفسدان آن ولایت قیام باید او بوجب فرمود هروی توجه بان مملکت نهاد ودرآن ایام قحطی عظیم درخراسان روی بوده بود و باران از آسبان باز استاده چنانچه مردم از زراعت آینده نیز نومیده شده بودند چون عبد آلله به نیشابور رسید ابواب رحت مفتوح کشته باران بسیار بارید ودرزمان دولت عبد آلله خراسان معبور شد در سنه خس و عشر و مایتین از غلامان عبد آلله بن طاهر عزیز نام از مصر باجعی متوحه خذمت او کشته چون بغم رسید جعفر بن داود که در آن زمان متواد مخالفت مأمون میکرد با او محاربه بود و عزیز بروی ظفر یافت و در سنه و مشر و مایتین عبد آلله بن طاهر خواج خراسان را مقهور و و در سنه و عشر و مایتین عبد آلله بن طاهر خواج خراسان را مقهور و مستاصل ساخت و چون مأمون بجوار رفت و متعصم بر سریر خلاف

فيشست

دی نوشتی کفتم بلّی کفت امروز خبر مرك طاهر بنویس من باز کشتم و صورت قضیّه را درقلمی برده بدار آلسّلام ارسال بودم کویند که چون خبر اوّل بخلیفه رسید با احمد ابی خالد کفت که ترا در روز بجانب خراسان باید رفت که ضامن طاهر تویی و احمد همّت برتجهیز و ترتیب لشکر گماشته بساز رفتن مشغول شد که ناکاه روزی دیکر خبر وفات طاهر رسید و احمد بن خالد از و رطه و تکلیف رهایی یافت بصحّبت پیوسته که چون دو آلیمینین نام مأمون از خطبه بیفکند بعد از باز جعه خدمتش را تب کرفته مریض کشته و صباح او را در فراش مرده یافتند مدّت یکسال و ششهاه مریض کشته و صباح او را در فراش مرده یافتند مدّت یکسال و ششهاه حکومت خراسان متعلق به او بود ابو آلطیب کنیّت داشت و یك چشم او نور بهره نداشت شاعری دراین باب کوید بیت


یا دو آلیمینین و عین و احد نقصان عین و بین زایدة

## فكر حكومت طلحهء بن طاهر

چون خبر وفات طاهر سمع فأمون رسید در شهور سند تسع و مایتین جهت طلحه مثال و تشریف فرستاده حکومت خراسان را برای و رأفت و رؤیت او مفوض کردانید بعضی کفته اند که عبد آلله بن طاهر در حین وفات پدرش در رقه بحرب نصر بن شبیب خارجی می نود و مأمون اورابر مجبوع احوال و اعال طاهر والی کردانیده عبد آلله حکومت خراسان را از راه نیابت به برادر خود طلحه تغویض نود و خایفه

نوعی سازد کهوی بحدی از حدود ولایت رود تا ازباس و سخط مأمون محروس و مصون ماند و احمدابی خالد متقبل ملتس ذو آلیمینین شد بخدمت مأمون شتافت و چون در آمد خلیفه ازاو استفسار احوال مملکت نمود وزيركفت چند شب استكه سلطان منام از سراپرده، ديده، من رخت بربسته مأمون موجب آن پر سیده احمد جواب داد که احوال مملکت خراسان نامضبوط است و لشكر ترك نزديك و غسان كه والي ولايت است از عهده ضبط و داراي آن ملك بيرون نيتواند آمد مأمون كغت كه مصلحت چيست وزير معروض داشت كه طاهر بن حسين را به آيالت آن سرزمين بايد فرستاد مأمون فرمود که بروي اعتماد آن نيست مبادا که محالفت نکند احمد بن ابي خالد كفت كه هرچه ازوي صادر شود من ضامنم و مأمون بدان رضا داده طاهر روی بخراسان نهاده و در حکومت آن ملکت به اندك زمان مستبد و مستقل کشت کلثوم بن ثابت کوید که من درایام خلافت مأمون در خراسان صاحب برید بودم درجعه از جعات طاهربر منبر رفته خطبه خواند و بعوض دعاي خليفه اين كلمات بر زبان راند كه آلاهم اصلح الله محمد با اصلحت به اولياك و اكفهاء شرّمن بغي عليها و حسد بكم الشعث و حفن آلدّماء و اصلاح ذات آلبين با خود كفتم اوّل كسي كه درين قضيّه کشته شود من خواهم بود چه این خبر نهان نتوانم داشت درخانه رفتم و غسل کرده کفن حاضر ساختم و صورت حال را بي زيادت و نقصان درقلم آورده ببغداد فرستادم روزی دیکر قبل از طلوع آفتاب ازسرای امارت کسی بطلب من آمد کلمه و شهادت بر زبان گذرانیده روان شدم چون بدآنجا رسيدم طلحهء بن طاهر ازدار آلاماره بيرون آمده بامن كفت كه و اقعهء

انتظام یافته ملازمت مینمود تا روزی بجلیس مأمون درآمد وا و به شراب خوردن اشتغال داشت فرمود که حسین خادم طاهررا کاسه ع چند داد ودرین اثنا مأمون در کریه شد طاهر کفت که ای امیر آلمؤمنین از شرف تا بغرب عالم در تخت فرمان تست هيم نيدانم كه سبب اين كريه چيست مامون فرمود که من ازدرای امری میکریم که اظهار آن مستلزم مذلت و خواري است و اخفآء آن مقارن غم وبيماري وهيچكس بي اندوه نيست و بعد از آن برتبه عربه بر مأمون مستولي شد كه طاهررا مجال سؤال ناده وطاهر ازبیش مأمون اندیشناك بیرون آمده یكی از مخصوصان حسين خادمرا طلب داشت ومبلغ خطير به او داد كه بخدوم خود رسانيده اورا بران دارد تا از مأمون بپرسد كه سبب آن كريه چه بوده وعلازم حسين مبلغ دو بیست هزار درم پیش او برده مدعی طاهر دو آلیمینین را بعرض رسانید و چون روز دیکر حسین شرف پابوس مأمون حاصل کردید ازوی شراب خواست حسین کفت که و آلله شراب ندهم تا امیر آلمؤمنین سبب كريدي خويش كه دي وقع شد به بند بكويده مأمون كفت ترا با اين سخن چکارست حسین کفت این کستاخی جهة اندوهی است که از کریه ع خلیفه ير خير من استلا يافنه مأمون فرمون كه أكر اين راز باكسي كويي ترا بكشم حسین جواب داد که من هر کر بافشاء اسرار متهم نبوده ام مأمون کفت هين كه چشم من بر طاهر مي افتد احوال برادرم محمد امين وكشته شدن او بان ذل و هوان بخاطرم ميرسد و خودرا آنگاه از كريه ني توانم داشت حسین کیفیت حال با طاهر باز فرستاه و طاهر نزد احمد ابی خاله وزیر رفته كفت هركه نيكويي كند ضايع ناند آنگه مبطّن اعلام داد و التماس نود كه نوعي



تذكير سلاطين ايران بعد آلاسلام از تصانيف امير خواند محمد هروي مورخ مشهور

چون طاهر بن حسین بن مصعب خزاعی محقد امین عباسی را بکشت وماً مون از خراسان به بغداد رفت طاهر درسلك خدام عتبه علافت انتظام

